



شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصباح میں ہے کہ ابو حمزہ ثمالی  
نے روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رمضان  
المبارک کی رات کا اکثر حصہ نمازِ خدا میں بسر کرتے تھے اور جب  
سحری ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

التماس

سُورَةُ فَاتِحَةٍ بِرَأْسِ الْيَصَالِيهِ نَوَائِبِ

مرحوم یوسف علی ماؤجی مٹھانی

مرحوم رفیق علی یوسف علی

مرحوم غلام عباس یوسف علی

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ لَا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ وَلَا تُكَلِّبْنِي فِي حِيلَتِكَ مِنْ أَيْنَ لِي الْخَيْرُ يَا رَبِّ وَلَا  
 يُوْجِدُ إِلَّا مِنْ عِندِكَ وَمِنْ أَيْنَ لِي النِّجَاةُ وَلَا تُسْتَطَاعُ إِلَيْكَ إِلَّا الَّذِي أَحْسَنَ  
 اسْتَعْنَى عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَا الَّذِي أَسَاءَ وَأَجْرَهُ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرِضْكَ خَيْرَ عَنْ  
 قُدْرَتِكَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اسْكُوتَا كَمَا سَأَسْ مِنْ مَقْطَعِ هُوَ جَاءَ بِهِيَ كَمَا بِكَ  
 عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 الَّذِي أَدْعُوهُ فَيُجِيبُنِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِيئًا جِئْتُ بِدَعْوَتِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي  
 وَإِنْ كُنْتُ بَخِيلًا جِئْتُ بِسْتَفْرَضَتِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنَا وَبِهِ كَلَّمَا شِئْتُ لِحَاجَتِي وَ  
 أَخْلَوُا بِهِ حَيْثُ شِئْتُ لِسِرِّي بِغَيْرِ شَفِيعٍ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا أَدْعُوهُ  
 غَيْرُهُ وَلَا أَدْعُوهُ غَيْرُهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو غَيْرَهُ وَلَا  
 سَأَلْتُ غَيْرَهُ لَأَخْلَعَنَّ رَجَائِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَلَّمَنِي إِلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي وَلَمْ  
 يَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ فَيُهَيِّئُونِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَهُوَ غَفِيٌّ عَنِّي وَالْحَمْدُ  
 لِلَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ عَنِّي حَتَّى كَانِي لَا دُنْبَ لِي قَدْرِي أَحْسَدُ شَيْءٍ عِنْدِي وَأَحْسَنُ بِحَمْدِي

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَجْدِ سُبُلِ الْمَطَالِبِ إِلَيْكَ مُشْرَعَةً وَمَتَاهِلِ الرَّجَاءِ إِلَيْكَ مُتْرَعَةً وَ  
 الْإِسْتِعَانَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَقْلَكَ مَبَاحَةً وَأَبْوَابِ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِحِينَ مَفْتُوحَةً  
 وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ بِمَوْضِعِ اجَابَةٍ وَلِلْمَلْهُوفِينَ بِمِرْصَدِ إِعَانَةٍ وَأَنَّ فِي اللُّغْفِ إِلَى  
 جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ عَوْضًا مِنْ مَنَعِ الْبَاطِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِي السَّائِرِينَ  
 وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ تَرِيْبُ السَّافِرَةِ وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْبِبَهُمْ  
 الْأَعْمَالَ دُونَكَ وَقَدْ نَصَدْتُ إِلَيْكَ بِطَلِبَتِي وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتَ بَكَ  
 اسْتِعَانَتِي وَبِدُعَائِكَ تَوَسُّلِي مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقِي لِاسْتِمَاعِكَ مِنِّي وَلَا اسْتِيجَابِ لِعَفْوِكَ  
 عَنِّي بَلْ لِنِعْمَتِي بِكَرَمِكَ وَسُكُونِي إِلَى صِدْقِ وَعْدِكَ وَلِجَأِي إِلَى الْإِيمَانِ بِتَوْجِيدِكَ  
 وَبَعِيْنِي بِمَعْرِفَتِكَ مِنِّي أَنْ لَا رَبَّ لِي غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ  
 اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَائِلُ وَقَوْلِكَ حَقٌّ وَعَدْدُكَ صِدْقٌ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَكَبِيرًا مِنْ صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي أَنْ تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعُ الْعَطِيَّةَ  
 وَأَنْتَ السَّائِلُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِكَ وَالْعَابِدُ عَلَيْهِمْ بِتَعَنُّنِ رَأْفَتِكَ إِلَهِي  
 رَبِّيْنِي فِي نِعْمِكَ وَاحْسَانِكَ صَغِيرًا وَكُوْهَتَ يَا سَيِّدِي كَبِيرًا فَيَأْتِنِ رَبَّانِي فِي الدُّنْيَا  
 بِإِحْسَانِهِ وَتَعْضُلِهِ وَنِعْمِهِ وَأَشَارِي فِي الْآخِرَةِ إِلَى عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ مَعْرِفَتِي يَا مَوْلَايَ  
 دَلِيْلِي عَلَيْكَ وَحُجَّتِي لَكَ شَفِيْعِي إِلَيْكَ وَأَنَا وَارِثِي مِنْ دَلِيْلِي بِدُلَايَتِكَ وَسَاكِنِي مِنْ  
 شَفِيْعِي إِلَى شَفَاعَتِكَ أَدْعُوكَ يَا سَيِّدِي بِلسَانِ تَدَاخُرْسَهُ وَثَبَّةَ رَبِّ أَنْجِيْكَ

يَقْلِبُ تَدَاوُبَهُ جُزْمُهُ أَدْعُوكَ يَا رَبِّ رَاهِبًا رَاجِيًا خَائِفًا إِذَا رَأَيْتُ مَوْلَايَ  
ذُلُّوْنِي فَرِعْتُ وَإِذَا سَرَّيْتُ كَرَمَكَ طَبِعْتُ فَإِنَّ عَفْوَتَ فَخَيْرٍ سَرَّاجِمٍ وَإِنْ مَدَّتْ  
فَعَبْرُ ظَالِمٍ حُجَّتِي يَا اللَّهُ فِي جُرْأَتِي عَلَى مَسْئَلَتِكَ مَعَ إِتْيَانِي مَا تَكْرَهُ جُودَكَ وَكَرَمَكَ  
وَعَدَّتِي فِي شِدَّتِي مَعَ قِلَّةِ حَيَاتِي رَأَيْتُكَ وَرَحْمَتَكَ وَقَدْ رَجَوْتُ أَنْ لَا تَخْتِيبَ بَيْنَ  
ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنِيئِي فَحَقِّقْ رَجَائِي وَأَسْمِعْ دُعَائِي يَا خَيْرَ مَنْ دَعَاكَ دَائِعٍ وَأَنْفَضَ مَنْ  
رُجَاهُ رَاجِعٍ عَظْمًا يَا سَيِّدِي أَمَلِي وَسَاءَ عَمَلِي فَأَعْطِنِي مِنْ عَفْوِكَ بِعَقْدِ أَمَلِي  
وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِأَسْوَأِ عَمَلِي فَإِنَّ كَرَمَكَ يَجِلُّ عَنْ مُجَازَاةِ الْمُذْنِبِينَ وَجِلْمَكَ  
يَكْبُرُ عَنْ مَكَا فَاتِ الْمُقْصِرِينَ وَأَنَا يَا سَيِّدِي عَائِدٌ بِفَضْلِكَ هَارِبٌ مِنْكَ إِلَيْكَ  
مُتَنَجِّزٌ مَا وَعَدْتِ مِنَ الصَّغِيرِ عَمَّنْ أَحْسَنَ بِكَ ظَنًّا وَمَا أَنَا يَا رَبِّ وَمَا خَطْبِي  
هَبْنِي بِفَضْلِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ أَيُّ رَبِّ جَلَلْنِي بِسِتْرِكَ وَاعْفُ عَنِّي  
تَوْبِيئِي بِكَرَمِ رُجْهِكَ فَلَوْ أظَلَمَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتَهُ وَلَوْ خَفْتُ  
تَعَجُّيلَ الْعُقُوبَةِ لَا اجْتَنَيْتَهُ لِأَنَّكَ أَهْوَى النَّاطِرِينَ إِلَيَّ وَأَخَفُ الْمُطَّلِعِينَ عَلَيَّ  
بَلْ لِأَنَّكَ يَا رَبِّ خَيْرُ السَّائِرِينَ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ سَتَّارُ  
الْعُيُوبِ عَقَارُ الدُّرُوبِ عَلَامَةُ الْعُيُوبِ تَسْتُرُ الذَّنْبَ بِكَرَمِكَ وَتُخْفِرُ الْعُقُوبَةَ  
بِعِلْمِكَ فَتَلْكَ الْخُصْدُ عَلَى جِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ تَدَاوُبِكَ وَيَحْمِلُنِي وَ  
يُجَرِّئُنِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ جِلْمَكَ عَنِّي وَيَدْعُونِي إِلَى قِلَّةِ الْهَيَاءِ سِتْرَكَ عَلَيَّ وَيَسْرِعُنِي

إِلَى التَّوَكُّبِ عَلَى مَحَارِمِكَ مَعْرِفَتِي بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكَ يَا كَرِيمُ  
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا غَانِيَ الدُّنْيَا يَا قَابِلَ التَّوْبِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ أَيْنَ  
سِتْرُكَ الْجَمِيلُ أَيْنَ عَفْوُكَ الْجَمِيلُ أَيْنَ فَرْجُكَ الْقَرِيبُ أَيْنَ غِيَاثُكَ الشَّرِيعُ أَيْنَ  
رَحْمَتُكَ الْوَاسِعَةُ أَيْنَ عَطَايَاكَ الْفَاضِلَةُ أَيْنَ مَوَاهِبُكَ الْهَنِيئَةُ أَيْنَ صَنَائِعُكَ  
السَّنِيئَةُ أَيْنَ فَضْلُكَ الْعَظِيمُ أَيْنَ مَتْنُكَ الْجَسِيمُ أَيْنَ إِحْسَانُكَ الْقَدِيمُ أَيْنَ كَرَمُكَ  
يَا كَرِيمُ بِهِ نَاسْتَنْقِذُ فِي رَحْمَتِكَ نَخْلِصُنِي يَا مُحْسِنُ يَا مُجِيبُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفِضُ  
لَسْتُ أَتَّكِلُ فِي النَّجَاةِ مِنْ عِقَابِكَ عَلَى أَعْمَالِنَا بَلْ بِفَضْلِكَ عَلَيْنَا لِأَنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى  
وَأَهْلُ الْمَعْفُورَةِ تُبَدِّئُ بِالْإِحْسَانِ نَعْمًا وَتَعْفُوا عَنِ الذَّنْبِ كَرَمًا ثَمَّ نَذَرِي مَا تَشْكُرُ  
أَجْمِيلَ مَا تَشْكُرُ أَهْلِيهِ مَا تَشْكُرُ أَمْرَ عَظِيمٍ مَا أَبْلَيْتَ وَأَوْلَيْتَ أَمْ كَثِيرٍ مَا مَنَعْتَ  
وَعَانَيْتَ يَا حَبِيبُ مَنْ تَحَبَّبَ إِلَيْكَ وَيَا ثَرَّةَ عَيْنٍ مَنْ لَادَ بِكَ وَأَنْقَطَعَ إِلَيْكَ أَنْتَ  
الْمُحْسِنُ وَنَحْنُ الْمُسِيئُونَ فَيَا وَرَّ يَا رَبِّ عَنْ قَبِيحِي مَا عِنْدَنَا بِجَمِيلٍ مَا عِنْدَكَ وَ  
أَيُّ جَهْلٍ يَا رَبِّ لَا يَسَعُهُ جُودُكَ أَوْ أَيُّ زَمَانٍ أَطْوَلَ مِنْ أَمَانَتِكَ وَمَا تَقْدُرُ أَعْمَالِنَا فِي  
جِبِّ نَعْمِكَ وَكَيْفَ نَسْتَأْتِرُ أَعْمَالًا نَقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ بَلْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ عَلَى الْمُذْنِبِينَ مَا  
وَسِعَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ يَا رَاسِمَ الْمَعْفُورَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ فَوْعَزَتِكَ يَا سَيِّدِي  
لَوْ نَهَرْتَنِي مَا بَرَحْتُ مِنْ بَابِكَ وَلَا كَفَفْتُ عَنْ تَسْلُوكِكَ لِمَا أَنْتَهَى إِلَيَّ مِنَ الْمَعْرِفَةِ  
بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَأَنْتَ الْفَاعِلُ لِمَا تَشَاءُ تُعَذِّبُ مَنْ تَشَاءُ وَمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ وَ

تَرْحَمُ مَنْ تَشَاءُ بِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ لَا تَسْأَلُ عَنْ فِعْلِكَ وَلَا تُنَادِرُ فِي مُلْكِكَ وَلَا  
تُشَارِكُ فِي أَمْرِكَ وَلَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْكَ أَحَدٌ فِي تَدْبِيرِكَ لَكَ الْخَلْقُ  
وَالْأُمُورُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ هَذَا مَقَامٌ مِنْ لَأَذْبِكَ وَاسْتِجَارَ بِكَرَمِكَ وَ  
أَلْفَ إِحْسَانِكَ وَنِعْمَتِكَ وَأَنْتَ الْجُودُ الَّذِي لَا يَبْضِي عَفْوُكَ وَلَا يَنْقُصُ فَضْلُكَ وَ  
لَا تَعْلُ رَحْمَتُكَ وَقَدْ تَوَلَّيْنَا مِنْكَ بِالصَّفْحِ الْقَدِيمِ وَالْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَالرَّحْمَةِ  
الْوَاسِعَةِ أَفْتَرَاكَ يَا رَبِّ تُخَلِّفُ ظُنُونَنَا أَوْ تُجِيبُ أَمَّا لَنَا كَلَّا يَا كَرِيمُ فَلَيْسَ هَذَا أَكْثَمًا  
بِكَ وَلَا هَذَا أَفْيَكُ طَمَعْنَا يَا رَبِّ إِنْ لَنَا فِيكَ أَمَلًا طَوِيلًا كَثِيرًا إِنْ لَنَا فِيكَ رَجَاءٌ عَظِيمًا  
عَصِيانًا وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ تُسْتَرْعَيْنَا وَدَعْوَانَا وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ تُسْتَجِيبَ لَنَا  
فَحَقِّقْ رَجَائَنَا مَوْلَانَا فَقَدْ عَلِمْنَا مَا نَسْتَوْجِبُ بِأَعْمَالِنَا وَلَكِنْ عَلِمْنَا فِيْنَا وَعَلِمْنَا بِأَنَّكَ  
لَا تُصَرِّفُنَا عَنْكَ وَإِنْ كُنَّا غَيْرَ مُسْتَوْجِبِينَ لِرَحْمَتِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَيْنَا وَعَلَى  
الْمُدْنِيِّينَ بِفَضْلِ سَعَتِكَ فَأَمِنْ عَلَيْنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَجِدْ عَلَيْنَا فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَى  
نَيْلِكَ يَا عَفَّارَ بِحُورِكَ اهْتَدَيْنَا وَبِفَضْلِكَ اسْتَفْتَيْنَا وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا ذُرِّيَّتُنَا  
بَيْنَ يَدَيْكَ لَسْتَ غَفُورًا اللَّهُمَّ مِنْهَا وَتَوُوبَ إِلَيْكَ تَتَجَبَّبُ إِلَيْنَا بِالنِّعَمِ وَتُعَارِضُكَ  
بِالدُّرُوبِ خَيْرُكَ إِلَيْنَا نَازِلٌ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ  
عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِيحٍ فَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَحُوطَنَا بِنِعْمِكَ وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِالْإِلَاحِ  
فَسُبْحَانَكَ مَا أَحْلَمَكَ وَأَعْظَمَكَ وَآكَرَمَكَ مُبْدِنَا وَمُعِيدُنَا تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَجَلَّ

تَنَادَكَ وَكَرَّمْنَا نِعْمَكَ وَنِعَالَكَ أَنْتَ إِلَهِي أَوْسَعُ فَضْلاً وَأَعْظَمُ حِلْماً مِنْ أَنْ تُقَابِسَنِي  
 بِفِعْلِي وَخَطِيئَتِي فَالْعَفْوُ الْعَفْوُ سَيِّدِي سَيِّدِي اللَّهُمَّ اشْغَلْنَا بِذِكْرِكَ  
 وَأَعِدْنَا مِنْ سَخَطِكَ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ وَارْزُقْنَا مِنْ مَوَاهِبِكَ وَأَنْعِمْ عَلَيْنَا مِنْ  
 فَضْلِكَ وَارْزُقْنَا حَبْرَ بَيْتِكَ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَ  
 وَرِضْوَانِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَارْزُقْنَا عَمَلًا يَطَاعَتِكَ وَتَوَقُّنَا  
 عَلَى مِلَّتِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَتِي وَارْحَمْهُمَا  
 كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَأَجِرْهُمَا بِالْجَاهِ الْإِسْلَامِ بِالسُّبُحَاتِ غُفْرَانًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ  
 وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا  
 وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِلِنَا ذَكَرْنَا وَأَنْشَأْنَا صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا حُرْنَا وَمَمْلُوكِنَا كَذَبْنَا وَكَذَّبْنَا  
 بِاللَّهِ وَصَلَّوْا صَلَاةً لَبِيبَةً وَخَيْرًا خُسْرَانًا مُبِينًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ  
 وَاجْتَمِعْ لِي بِخَيْرٍ وَالْغَيْبِ مَا أَهْتَبِي مِنْ أَمْرٍ مُؤْتِيٍّ وَأَجْرِي وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا  
 يَرْحَمُنِي وَاجْعَلْ عَلَيَّ مِنْكَ وَاقِيَةً بَاقِيَةً وَلَا تُسَلِّبْنِي صَالِحًا مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ  
 وَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ بِرِزْقًا وَإِسْمًا حَلَالًا طَيِّبًا اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِحِرَاسَتِكَ وَأَحْفَظْنِي  
 بِحِفْظِكَ وَاصْلِحْ لِي بِكَلَامَتِكَ وَارْزُقْنِي حَبْرَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِي عَامِنَا هَذَا وَفِي  
 كُلِّ عَامٍ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَالْأَيْمَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلَا تُغْلِبْنِي يَا رَبِّ مِنْ تَلَاكَ  
 الْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ وَالْمَوَاقِعِ الْكَرِيمَةِ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيَّ حَتَّى لَا أَعُوبِكَ وَالْغَيْبِ



الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَخَشِيَّتِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا أَبْقَيْتَنِي يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ  
 إِنِّي كُلَّمَا قُلْتُ نَدْتُهُمْ يَاتُكَ وَتُنْتِ لِلصَّلَاةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَأْجِيَّتِكَ أَلْقَيْتَ عَلَيَّ  
 نِعَامًا إِذَا أَنَا صَلَّيْتُ وَسَلَبْتَنِي مَنَاجِكَ إِذَا أَنَا تَأْجَيْتُ مَا لِي كُلَّمَا قُلْتُ نَدْتُهُمْ  
 سَرِيحِي وَقُرْبِي مِنْ مَجَالِسِ التَّوَابِينَ مَجْلِسِي عَرَضَتْ لِي بَلِيَّةٌ أَرَأَيْتَ قَدْ جُمِعَ وَ  
 حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ خِدْمَتِكَ سَيِّدِي لَعَلَّكَ عَنْ يَأْجِيَّتِكَ طَرَدْتَنِي وَعَنْ خِدْمَتِكَ تَحْيَيْتَنِي  
 أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُسْتَوْفًا بِحَقِّكَ فَأَقْصَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُعْرَضًا عَنْكَ فَغَلَبْتَنِي أَوْ  
 لَعَلَّكَ وَجَدْتَنِي فِي مَقَامِ الْكَافِرِينَ فَرَفَضْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي غَيْرَ شَاكِرٍ لِنِعْمَاتِكَ  
 فَحَرَمْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ نَقَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَدَلْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي فِي  
 الْعَالَمِينَ فَمِنْ رَحْمَتِكَ أَيْسَرْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي إِلَيْكَ مَجَالِسِ الْبَطَالِينِ فَجَبَيْتَنِي وَ  
 بَيْنَهُمْ خَلَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ لَمْ تُحِبَّ أَنْ تُسَمَّ دُعَايَ فَبَاعَدْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ بِجُرْحِي وَ  
 جَرِيحِي كَأَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ بِقَلْبِي حَيَايَ مِنْكَ جَارَيْتَنِي فَإِنْ عَفَوْتَ يَا رَبِّ فَطَالَ مَا  
 عَفَوْتَ عَنِ الْمُدْنِيِّينَ فَبَلِي لَأَنْ كَرَمَكَ أَيْ رَبِّ يَجْلُ عَنْ مَكَانَاتِ الْمُقَصِّرِينَ  
 وَأَنَا عَائِدٌ بِفَضْلِكَ هَارِبٌ مِنْكَ إِلَيْكَ مُتَقَهِّرٌ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصَّفْحِ عَنِّي أَحْسَنَ  
 بِكَ لَنَا اللَّهُمَّ أَنْتَ أَوْسَمُ نَصْلًا وَأَعْظَمُ جَلًّا مِنْ أَنْ تُقَابِسَنِي بِسَهْلِي أَوْ أَنْ تُسْتَزِلَّنِي  
 بِعَظِيمَتِي وَمَا أَنَا يَا سَيِّدِي وَمَا خَطِرِي هَبْنِي بِفَضْلِكَ سَيِّدِي وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ  
 بِعَفْوِكَ وَجَلِّدْنِي بِسَهْلِكَ وَاعْفُ عَنِّي تَوْبَتِي بِكَرَمِ وَجْهِكَ سَيِّدِي أَنَا الصَّغِيرُ

الَّذِي رَبَّيْتَهُ وَأَنَا الْجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمْتَهُ وَأَنَا الضَّالُّ الَّذِي هَدَيْتَهُ وَأَنَا الرَّضِيمُ  
الَّذِي رَفَعْتَهُ وَأَنَا الْجَائِفُ الَّذِي أَمَلْتَهُ وَالْجَاهِمُ الَّذِي أَشْبَعْتَهُ وَالْعَطْشَاتُ  
الَّذِي أَرَوَيْتَهُ وَالْعَارِي الَّذِي كَسَوْتَهُ وَالْفَقِيرُ الَّذِي أَغْنَيْتَهُ وَالضَّعِيفُ الَّذِي  
قَوَّيْتَهُ وَالذَّالِيلُ الَّذِي أَعَزَّزْتَهُ وَالسَّقِيمُ الَّذِي شَفَيْتَهُ وَالسَّالِلُ الَّذِي  
أَعْطَيْتَهُ وَالْمَذْنُوبُ الَّذِي سَتَرْتَهُ وَالْمَخَاطِبُ الَّذِي أَقَلْتَهُ وَأَنَا الْقَلِيلُ الَّذِي  
كَثَّرْتَهُ وَالْمُسْتَضْعَفُ الَّذِي نَصَرْتَهُ وَأَنَا الظَّرِيدُ الَّذِي أَرَيْتَهُ أَنَا يَا رَبِّ  
الَّذِي لَمْ أَسْتَحْيِكَ فِي الْخَلَاءِ وَلَمْ أُرَاتِبَكَ فِي الْمَلَاءِ أَنَا صَاحِبُ الدَّوَاهِي الْعَظْمَى  
أَنَا الَّذِي عَلَى سَيْدِي أَجْتَرِي أَنَا الَّذِي عَصَيْتُ جَبَّارَ السَّمَاءِ أَنَا الَّذِي أُعْطِيتُ  
عَلَى مَعَاوِي الْجَلِيلِ الرُّشَا أَنَا الَّذِي جِئْتُ بِشَرِّتُ بِهَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا أَسْعَى أَنَا  
الَّذِي أَمَهَلْتَنِي فَمَا أَرَعَوَيْتُ وَسَتَرْتِ عَلَيَّ فَمَا اسْتَحْيَيْتُ وَعَمِلْتُ بِالْمَعَاوِي  
فَتَعَدَيْتُ وَأَسْقَطْتَنِي مِنْ عَيْنِكَ فَمَا بِالْبَيْتِ فِيمَلِكِ أَمَهَلْتَنِي وَبِالسُّرُكِ  
سَتَرْتَنِي حَتَّى كَأَنَّكَ أَعْفَلْتَنِي وَمِنْ عُقُوبَاتِ الْمَعَاوِي جَبَبْتَنِي حَتَّى كَأَنَّكَ  
اسْتَحْيَيْتَنِي إِلَهِي لَمْ أَعْصِكَ حِينَ عَصَيْتُكَ وَأَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جَاهِدٌ وَلَا بِأَمْرِكَ  
مُسْتَوْفٍ وَلَا لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَلَا لِعُيُوبِكَ مُتَهَادٍ لَكِنْ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّكْتُ  
لِي نَفْسِي وَغَلَبَتْنِي هَوَايَ وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهَا شَقُوقِي وَعَزَّنِي سُدُوكُ الْمُرُخَى عَلَيَّ فَتَعَدَّ  
عَصِيَّتَكَ وَخَالَفْتِكَ بِجَهْدِي تَالِدًا مِنْ عَدَائِكَ مَنْ يَسْتَنْقِذُنِي وَمِنْ أَيْدِي الْمُعْصَاةِ

عَدَا مَنْ يَخْلُصُنِي وَيَجِدُ مِنْ أَلْصِلُ إِنْ أَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّي فَوَاسِرَاتَا  
 عَلَى مَا أَحْضَى كِتَابَكَ مِنْ عَمَلِ الَّذِي لَوْلَا مَا أَرْجُوا مِنْ كَرَمِكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ  
 وَلَهَيْكَ إِيَّايَ عَنِ الْقُنُوطِ لَقَطَعْتُ عِنْدَ مَا أَتَدَّ كَرُّهَا يَا خَيْرُ مَنْ دَعَاهُ دَاعٍ وَ  
 أَنْصَلَ مَنْ رَجَاهُ رَاجٍ اللَّهُمَّ بِرِزْمَةِ إِسْلَامِ أَلْتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ  
 أَعْتَمِدُ إِلَيْكَ وَيُحْيِي النَّبِيَّ الْأَمِينُ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْعَرَبِيُّ النَّهْشَبِيُّ الْكِنَانِيُّ  
 الْمَدَنِيُّ أَسْأَلُكَ بِالزُّلْفَةِ لَدَيْكَ فَلَا تُوحِشْ أَسْنِيَّتَنَا إِيْمَانِي وَلَا تَجْعَلْ ثَوَابِي  
 ثَوَابَ مَنْ عَبَدَ سِوَاكَ فَإِنِّي أَمِنَّا بِالسَّنِيَّتِهِمْ لِيَعْقِبُونَا بِهِ وَمَا هُمْ نَادِرُونَ  
 مَا أَمَلُوا وَإِنَّا أَمَّا بِكَ بِالسَّنِيَّتِنَا وَقُلُوبِنَا لِنَعْفُو عَنْهَا نَادِرُونَ كَمَا مَا أَمَلْنَا وَبَيَّتْ  
 رَجَائِكَ فِي صُدُورِنَا وَلَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  
 سَرَحَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَوَعِزَّتِكَ لِيُؤْتِيَنَا مَا نَبْرَحُ مِنْ بَابِكَ وَلَا  
 كَفَفْتُ عَنْ تَسْلِيْقِكَ لِمَا أَلْهَمَ قَلْبِي مِنَ التَّعَرُّفِ بِكَرَمِكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ  
 إِلَى مَنْ يَدُ هَبِ الْعَبْدِ إِلَّا إِلَى مَوْلَاهُ وَإِلَى مَنْ يَلْتَجِي السَّخْلُونُ إِلَّا إِلَى خَالِقِهِ  
 إِلَهِي لَوْ قَرَنْتَنِي بِالْأَصْفَادِ وَمَنْعَتَنِي سَيْبِكَ مِنْ بَيْنِ الْأَشْهَادِ وَدَكَلْتُ عَلَى  
 نَضَائِحِي عِيُونَ الْعِبَادِ وَأَمَرْتُ بِي إِلَى النَّارِ وَحُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِبْرَارِ مَا قَطَعْتُ  
 رَجَائِي مِنْكَ وَمَا صَرَفْتُ تَأْمِينِي لِلْعَفْوِ عَنْكَ وَلَا خَرَجْتُ حُبَّكَ مِنْ قَلْبِي أَنَا لَا  
 أَنْسَى أَيَادِيكَ عِنْدِي وَسِوَاكَ عَلَى فِي دَارِ الدُّنْيَا سَيِّدِي أَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا بَيْنَ

قَلْبِي وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى وَإِلَيْهِ خَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ  
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَانْقُلْنِي إِلَى دَرَجَةِ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ وَأَعِنِّي بِالْبَكَاءِ  
 عَلَى نَفْسِي فَقَدْ أَفْتَيْتُ بِالتَّسْوِيفِ وَالْأَمَالَ عُمْرِي وَقَدْ نَزَلَتْ مَثْرَةَ الْأَسِينِ  
 مِنْ خَيْرِي نَمَنْ يَكُونُ أَسْوَأَ حَالًا مِنِّي إِنْ أَنَا نَقَلْتُ عَلَى مِثْلِ حَالِي إِلَى قَبْرِي لَمْ  
 أَمْهَدُهُ لِرُقْدَتِي وَلَمْ أَفْرُشْهُ بِالْعَبْلِ الصَّالِحِ لِصَنْجَعَتِي وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَلَا أَدْرِي  
 إِلَى مَا يَكُونُ مَصِيرِي وَ أَرَى نَفْسِي تُخَادِعُنِي وَأَيَّامِي تُخَاتِلُنِي وَقَدْ خُفِّتُ عِنْدَ  
 رَأْسِي أَجِنَّةُ الْمَوْتِ تَمَانِي لَا أَبْكِي أَبْكِي لِخُرُوجِ نَفْسِي أَبْكِي لِظُلْمَةِ قَبْرِي أَبْكِي  
 لِصِيبِ لِحْدِي أَبْكِي لِسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَتَكْوِينِ إِيَّامِي أَبْكِي لِخُرُوجِي مِنْ قَبْرِي عُرْبَانًا ذَلِيلًا  
 حَامِلًا ثِقْلِي عَلَى ظَهْرِي أَنْظِرْ مَرَّةً عَنِّي يَبِينِي وَأُخْرَى عَنِّي إِذَا الْخَلَائِقُ  
 فِي شَأْنِ غَيْرِ شَأْنِي لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ  
 صَاحِبَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ لِمُوجُودٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْفَعُهَا تَرَةً وَذِلَّةٌ سَتِدِي  
 عَلَيْكَ مَعْرَلِي وَمُعْسَبِدِي وَرَجَائِي وَتَوَكُّلِي وَبِرَحْمَتِكَ تَعَلَّقِي تُصِيبُ بِرَحْمَتِكَ  
 مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي بِكَرَامَتِكَ مَنْ تُحِبُّ فَكَالْحَمْدُ عَلَى مَا نَقَيْتُ مِنَ الشَّرِكِ  
 تَلْبِي وَكَالْحَمْدُ عَلَى بَسْطِ لِسَانِي أَنِّي لِسَانِي هَذَا الْكَانَ أَشْكُرُكَ أَمْرِي بِرِغَايَةِ  
 جَهْدِي فِي عَمَلِي أَرْضِيكَ وَمَا قَدَّرُ لِسَانِي يَا رَبِّ فِي جَنْبِ شُكْرِكَ وَمَا

قَدَّرُ عَمَلِي فِي جَنَّتِكَ نِعْمَتِكَ وَإِحْسَانِكَ إِلَهِي إِنْ جُودَكَ بَسَطَ أَمَلِي وَ  
 شُكْرَكَ تَبَيَّنَ عَمَلِي سَيِّدِي إِلَيْكَ رَغْبَتِي وَإِلَيْكَ رَهْبَتِي وَإِلَيْكَ تَأْوِيلِي وَقَدَّرُ  
 سَاقَتِي إِلَيْكَ أَمَلِي وَعَلَيْكَ يَا وَاحِدِي عَكْفَتُ هِمَّتِي وَفِيمَا عِنْدَكَ انْبَسَطَتْ  
 رَغْبَتِي ذَلِكَ خَالِصُ رَجَائِي وَخَوْفِي بِكَ أَدْنَتْ مَحَبَّتِي وَإِلَيْكَ الْفَيْتُ بِيَدِي وَ  
 يَعْبِلُ طَاعَتِكَ مَدَدْتُ سِرْهَتِي يَا مَوْلَايَ بِذِكْرِكَ عَاشَ قَلْبِي وَبِمُنَاجَاةِكَ بَرَدْتُ  
 أَلَمَ الْخَوْفِ عَنِّي يَا مَوْلَايَ وَيَا مَوْلَايَ وَيَا مَنْتَهَى سُؤْلِي فَتَرَى بَيْنِي وَبَيْنَ ذَنْبِي  
 الْمَانِعِينَ مِنْ لُزُومِ طَاعَتِكَ نَاتِمًا أَسْأَلُكَ لِقَدِيمِ الرَّجَاءِ فَكَرَّ عَظِيمِ الطَّمَعِ مِنْكَ  
 الَّذِي أَوْجَبْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ يَا الْمُرْكَكَ وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ  
 وَالْخَلْقَ كُلَّهُمْ عِيَالَكَ وَفِي تَبَضُّعِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ حَاضِرَكَ تَبَارَكْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ  
 إِلَهِي اَرْحَمْنِي إِذَا انْقَطَعَتْ حُجَّتِي وَكُنْ عَن جَوَابِكَ لِسَانِي وَطَاشَ عِنْدَ سُؤْلِكَ آيَاتِي  
 لَيْتَ يَا عَظِيمُ رَجَائِي لَا تُخَيِّبَنِي إِذَا اشْتَدَّتْ فَاقَتِي وَلَا تَرُدَّنِي لِحَبْلِي وَلَا تَسْغَبْنِي لِقَلْبِي  
 صَبْرِي أَعْطِنِي لِقَطْرِ رِيحِي وَارْحَمْنِي لِضَعْفِي سَيِّدِي عَلَيْكَ مُعْتَصِدِي وَمَعْوَلِي وَرَجَائِي  
 وَتَوَكَّلِي وَبِرَحْمَتِكَ تَعَلَّقِي وَبِعِزَّتِكَ أَحْطَسِرْ حِلِّي وَبِحُجُودِكَ اتَّصِدُ طَلِبَتِي وَبِكَرَمِكَ  
 أَيُّ رَبِّ اسْتَفْتِمُ دُعَائِي وَذَلِيلِكَ أَسْرَجُوا فَاقَتِي وَبِعِزَّتِكَ أَجْبُرْ عَيْلَتِي وَتَحْتَ ظِلِّ  
 عَفْوِكَ تِيَارِي وَإِلْ جُودِكَ وَكَرَمِكَ أَرْفَعُ بَصِيرَتِي وَإِلْ مَعْرُوفِكَ أُؤَيِّمُ نَظْرَتِي فَلَا  
 تُحَرِّثْنِي بِالثَّارِ وَأَنْتَ مَوْضِعُ أَمَلِي وَلَا تُسْكِنْنِي الْهَاطِيَةَ فَإِنَّكَ تَرَاهُ عَيْنِي يَا سَيِّدِي لَا

تَكْذِبُ كُلِّي بِإِحْسَانِكَ وَمَعْرُوفِكَ يَا لَيْلَى وَلا تَحْرِمِي ثَوَابَكَ فَإِنَّكَ الْعَاسِرُ  
يَقْتَرِي إِلَهِي إِنْ كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُقَرِّبِي مِنْكَ عَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِعْتِرَافَ  
إِلَيْكَ بِذَنْبِي وَسَأَلْتُ عَلَيْكَ إِلَهِي إِنْ عَفَوْتَ فَسَنُ أُولَى مِنْكَ بِالْعَفْوِ وَإِنْ عَذَّبْتَ سَنُ  
أَعْدَلُ مِنْكَ فِي الْحُكْمِ أَرْحَمُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غُرْبِي وَعِنْدَ الْمَوْتِ كُرْبِي وَفِي الْغُيُوبِ  
وَحُدُوقِي وَفِي اللَّحْدِ وَحُشْتِي وَإِذَا انْشُرْتُ لِلْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ذَلِكَ مَوْعِنِي وَ  
اغْفِرْ لِي مَا خَفِيَ عَلَى الْأَدَمِيِّينَ مِنْ عَمَلِي وَأَدِمْ لِي مَا بِهِ سَأَرْتَنِي وَأَرْحَمْنِي  
صَرِيحًا عَلَى الْفِرَاشِ ثَقِيلِي أَيْدِي أَحِبَّتِي وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ مِنْ دُونِ الْمُغْتَسَلِ  
يُقَلِّبُنِي صَالِحِ حَيْرَتِي وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مَحْمُولًا قَدْ تَنَادَلَ الْأَثْرِبَاءُ أَطْرَافَ جَنَازَتِي  
وَجُدْ عَلَيَّ مِنْقُولًا قَدْ نَزَلَتْ بِكَ وَحِيدًا فِي حُفْرَتِي وَأَرْحَمْ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ الْجَدِيدِ غُرْبِي  
حَتَّى لَا أَسْتَأْسِرَ بِغَيْرِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي هَلَكْتُ سَيِّدِي فَيَسْمُنُ  
أَسْتَمِينُ إِنْ لَمْ تُقَلِّبْ عَثْرَتِي قَالِي مَنْ أَتَزَعُرُ إِنْ قَدَّمْتَ عِنَايَتَكَ فِي عَجْبَتِي وَإِلَى  
مَنْ أَلْتَجِي إِنْ لَمْ تُنْقِصْ كُرْبِي سَيِّدِي مَنْ لِي وَمَنْ يَرْحَمُنِي إِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي وَفَضَلَ  
مَنْ أُوَقِّلُ إِنْ عَدِمْتَ فَضْلَكَ يَوْمَ نَاقَتِي وَإِلَى مَنْ الْفِرَارُ مِنَ الدُّنُوبِ إِذَا انْقَضَى  
أَجَلِي سَيِّدِي لَا تُعَذِّبْنِي إِلَى وَأَنَا أَرْجُوكَ إِلَهِي حَقِيقِي رَجَائِي وَأَمِنْ خَوْفِي فَإِنَّ كَثْرَةَ  
دُنُوبِي لَا أَرْجُو نِيهَا إِلَّا عَفْوَكَ سَيِّدِي أَنَا أَسْأَلُكَ مَا لَا أَسْتَحِقُّ وَأَنْتَ أَهْلُ الْقَفْوَى وَ  
أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فَاعْفِرْ لِي وَالْأَيْسَرِي مِنْ نَظَرِكَ ثَوْبًا يُعْطَى عَلَى الثَّمَنَاتِ وَتَعْفِرْهَا لِي وَ

لَا أَطَاقُ بِهَا إِتَاكَ ذُو مَن تَدِيرُ وَصَفْحَ عَظِيمٍ وَتَجَاوِزَهَا كَرِيمٍ إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي تَعِينُ  
سَيِّدَكَ عَلَى مَنْ لَا يَسْئَلُكَ وَهَلِ الْجَاهِدِينَ بِرُبُوبِيَّتِكَ فَكَيْفَ سَيِّدِي بِمَنْ سَأَلَكَ وَدَائِقِن  
أَنَّ الْخَلْقَ لَكَ وَالْأَمْرَ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سَيِّدِي عَبْدُكَ  
بِبَابِكَ أَقَامَتُهُ الْخِصَاصَةَ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقْرَعُ بَابَ إِحْسَانِكَ بِدُعَائِهِ فَلَا تُعْرِضْ  
بِرُجْهِكَ الْكَرِيمِ عَنِّي وَاقْبَلْ مِنِّي مَا أَقُولُ فَقَدْ دَعَوْتُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَأَنَا  
أَسْرَجُوا أَنْ لَا تُرَدِّي مَعْرِفَةَ مَنِّي بِرَأْفَتِكَ وَسَرِّحْتِكَ إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي لَا يُعِينُكَ  
سَائِلٌ وَلَا يَنْقُصُكَ تَائِبٌ أَنْتَ كَمَا تَقُولُ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَبْرًا  
جَمِيلًا وَفَرَجًا قَرِيبًا وَقَوْلًا صَادِقًا وَأَجْرًا عَظِيمًا أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ  
مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ  
يَأْخِذُونَ مِنْ سَيْلِ وَأَجُودَ مَنْ أَعْطَى أَعْطَى سُؤْلِي فِي نَفْسِي وَأَهْلِي وَوَالِدَيْ وَ  
أَهْلِي حُزَانَتِي وَإِخْوَانِي فِيكَ وَأَرْعِدْ عَيْنِي وَأَظْهِرْ مَرُوفِي وَأَصْلِحْ جَمِيعَ أَحْوَالِي  
وَأَجْعَلْني مِمَّنْ أَطْلَقَتْ عُمُرُهُ رَحْسُنْتَ عَمَلَهُ وَأَتَمَّتْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ وَرَضِيَتْ  
عَنْهُ وَأَحْيَيْتَهُ حَيَوَةً طَيِّبَةً فِي أَدْوَارِ الشُّدُورِ وَأَسْبَغَ الْكِرَامَةَ وَأَتَمَّ الْعَيْشَ  
إِلَيْكَ تَفَعَّلْ مَا تَشَاءُ وَلَا يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ خَصِّنِي مِنْكَ بِمَخَاصِرِ ذَلِكَ  
وَلَا تَجْعَلْ شَيْئًا مِنَّا أَتَقَرَّبُ بِهِ فِي أَنْفَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ رِيَاءً وَلَا سَعَةً وَ  
لَا أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَأَجْعَلْني لَكَ مِنَ الْخَاشِعِينَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي السَّعَةَ فِي الرِّزْقِ  
وَالْأَمْنِ فِي الْوَطَنِ وَثَرَّةَ الْعَيْنِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْمُعَامَرِ فِي نِعَمِكَ

عِنْدِي وَالصِّعَةِ فِي الجِسْمِ وَالقُوَّةَ فِي البَدَنِ وَالسَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَاسْتَعْلِي بِطَائِفَةٍ  
وَطَاعَةَ سُرُوكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَبَدًا مَا اسْتَعْمَرْتَنِي وَاجْعَلْنِي مِنْ أُوْد  
فِرْعَوْنِكَ عِنْدَكَ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ وَتُنزِلُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ  
وَمَا أَنْتَ مُنْزِلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ رَحْمَةٍ تَنْسُرُهَا وَعَافِيَةٍ تُلْبِسُهَا وَبَلِيَّةٍ تَدْنِعُهَا  
وَحَسَنَاتٍ تَتَقَبَّلُهَا وَسَيِّئَاتٍ تَتَجَاوَزُ عَنْهَا وَارْزُقْنِي حَبْرَ بَيْتِكَ الْحَمَامِي عَامِنًا  
هَذَا وَفِي كُلِّ عَامٍ وَارْزُقْنِي رِزْقًا وَاسِعًا مِنْ فَضْلِكَ الوَاسِعِ وَاصْرِفْ عَنِّي يَا سَيِّدِي  
الْأَسْوَاءَ وَأَتِّبْ عَقِي الدِّينِ وَالْكَلَامَاتِ حَتَّى لَا أَتَأَذَى بِشَيْءٍ مِنْهُ وَخُذْ عَنِّي يَا مَاهِرًا  
وَأَبْصَارِ أَعْدَائِي وَحُسْنِ الدِّينِ وَالْبَاغِينَ عَلَيَّ وَانصُرْنِي عَلَيْهِمْ وَاقْرَأْ عَنِّي وَفَرِّجْ لِي  
وَاجْعَلْ لِي مِنْ هَمِّي وَكُرْبِي فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَاجْعَلْ مِنْ أَرَادَتِي بِسُوءٍ مِنْ جَمِيعِ  
خَلْقِكَ تَحْتَ تَدَمِّي وَالكُفْيِ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ السُّلْطَانِ وَسَيِّئَاتِ عَمَلِي وَطَهِّرْ لِي  
مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّهَا وَاجْزِئْ لِي مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ وَادْخُلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَسَمِّجْنِي  
مِنَ الحُورِ الْعِينِ بِفَضْلِكَ وَاجْعَلْنِي يَا وَلِيَّائِكَ الصَّالِحِينَ مُحَمَّدًا وَآلِهِ الْأَبْرَارِ  
الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَجْسَادِهِمْ وَأَرْوَاهِهِمْ وَ  
رَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لِيْن طَالِبَتْنِي بِذُنُوبِي  
لَطَالِبَتْنِكَ بِعَفْوِكَ وَلِيْن طَالِبَتْنِي بِلُومِي لِطَالِبَتْنِكَ بِكَرَمِكَ وَلِيْن أَدْخَلْتَنِي النَّارَ  
لَاخِيْرًا أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي إِنْ كُنْتُ لَا تَعْفُو إِلَّا لِوَلِيَّائِكَ وَ



وَ أَهْلَ طَاعَتِكَ قَالِي مَنْ يَعْرِضُ الْمُذْنِبُونَ وَإِنْ كُنْتُ لَا تُكْرِمُ إِلَّا أَهْلَ الْوَنَاءِ بِكَ  
 نَسِمَنْ يَسْتَفِيثُ الْمُسِيئُونَ إِلَيْهِ إِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ فَبِعِي ذَلِكَ سُورُودُكَ وَإِنْ  
 أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ فَبِعِي ذَلِكَ سُورُودُ نَبِيِّكَ وَأَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ سُورُودَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ  
 مِنْ سُورُودِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَسَلِّمْ قَلْبِي حُبَّكَ وَخَشْيَةَ مِنْكَ وَتَصَدِّقًا  
 بِكِتَابِكَ وَرِيَاسَاتِكَ وَفَرَقًا مِنْكَ وَشَوْقًا إِلَيْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ حَبِّبْ إِلَيَّ  
 لِقَاءَكَ وَأَحِبِّبْ لِقَائِي وَاجْعَلْ لِي فِي لِقَائِكَ الرَّاحَةَ وَالْفَرَجَ وَالْكَرَامَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي  
 بِصَالِحٍ مِنْ مَضَى وَاجْعَلْ لِي مِنْ صَالِحٍ مَنْ بَقِيَ وَخُدِّي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ وَأَعِزِّي عَلَى  
 نَفْسِي بِمَا تَعِينُ بِهِ الصَّالِحِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاخْتِمْ عَلَيَّ بِأَحْسَنِهِ وَاجْعَلْ لِقَائِي  
 مِنْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَأَعِزِّي عَلَى صَالِحٍ مَا أَعْطَيْتَنِي وَثَبَّتَنِي يَا رَبِّ وَلَا تُؤَدِّرِي  
 فِي سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا أَجَلَ لَهُ دُونَ  
 لِقَائِكَ أَحْيِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَتَوَقَّئِي إِذَا تَوَقَّيْتَنِي عَلَيْهِ وَابْعَثْنِي إِذَا بَعَثْتَنِي  
 عَلَيْهِ وَأَبْرِرْ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ وَالشُّكِّ وَالشُّبْحَةِ فِي دِينِكَ حَتَّى يَكُونَ عَمَلِي خَالِصًا  
 لَكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِصِيْرَةً فِي دِينِكَ وَتَهْمًا فِي حُكْمِكَ وَنَفْهًا فِي عِلْمِكَ وَكُفْلًا  
 مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَسْرًا يَجْعَلُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ وَبَيْضَ وَجْهِي بِنُورِكَ وَاجْعَلْ رَغْبَتِي  
 نَيْسًا عِنْدَكَ وَتَوَقَّئِي فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي  
 أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْفَقْرِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْخَفَلَةِ وَالْقَسْوَةِ وَ

الْمُسْكِنَةِ وَالْفَقِيرَ وَالْفَائِتَةَ وَكُلَّ بَلِيَّةٍ وَالْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَقْنَعُ وَبَطْنٍ لَا يَشْبَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ  
 وَعَمَلٍ لَا يَنْفَعُ وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي وَمَالِي وَعَلَى جَمِيعِ مَا  
 رَزَقْتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُجِيزُنِي  
 مِنْكَ أَحَدٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ دُونِكَ مُلْتَحِدًا فَلَا تَجْعَلْ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مِنْ عَذَابِكَ وَ  
 لَا تَرُدَّنِي بِهَلَكَةٍ وَلَا تَرُدَّنِي بَعْدَ آيٍ إِلَيْهِمُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَأَعِلْ ذِكْرِي وَارْتَمِ  
 دَرَجَتِي وَحُطِّ زُرِّي وَلَا تُنْكَرْنِي بِعَظِيمَتِي وَاجْعَلْ ثَوَابَ مَجْلِسِي وَثَوَابَ مَنْطِقِي  
 وَثَوَابَ دُعَائِي وَرِضَاكَ وَالْحَيَّةَ نَا عَظِيمِي يَا رَبِّ جَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ وَرِزْقِي مِنْ فَضْلِكَ  
 إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ أَنْ تَعْمُومَنَّ وَقَلْبُكُنَا  
 أَنْفُسُنَا نَاعِفٌ عَنَّا فَإِنَّكَ أَوْلَى بِدِينِنَا مِنَّا وَأَمْرُنَا أَنْ لَا نُرَدَّ سَائِلًا عَنْ أَبْوَابِنَا وَقَدْ  
 جِئْنَاكَ سَائِلًا فَلَا تَرُدَّنِي إِلَّا بِقَضَاءٍ حَاجَتِي وَأَمْرِنَا بِالْإِحْسَانِ إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا  
 وَمَعْنُ أَرْقَائِكَ فَاعْتِقْ سَرَّ قَابِلَنَا مِنَ النَّارِ يَا مَفْرَعِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَيَا غَوْثِي عِنْدَ شِدَّتِي  
 إِلَيْكَ فِرْعَتُ وَبِكَ اسْتَعْنَتْ وَلَدْتُ لَا أَلُودُ بِسِوَاكَ وَلَا أَطْلُبُ الْفَرْجَ إِلَّا مِنْكَ فَأَغْنِنِي  
 وَتَوَجَّعْتِي يَا مَنْ يَفُكُّ الْأَسِيرَ وَيَجْعُو عَنِ الْكَثِيرِ أَثْبَلُ مِنِّي الْيَسِيرَ وَأَعْفُ عَنِّي  
 الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا ثَابِتًا شَرِيهَ قَلْبِي وَبِقِيَامَاتِي  
 أَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضِيَنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ



میرے معبود!   
 مجھے اپنے عتاب کے ذریعہ ادب نہ سکھانا ، اور نہ مجھے اپنے   
 جیلوں کے فریب میں مبتلا فرما کر دھوکہ دینا — کہ میں اپنی   
 لاعلمی کے سبب تیرے عذاب کو رحمت سمجھتا رہوں اور جب   
 قیامت کے دن حقیقت سامنے آئے تو کفِ افسوس ملوں۔!   
 اے رب!

میں کہاں سے بھلائی حاصل کروں؟ کہ بھلائی تو صرف   
 اور صرف تیری ہی بارگاہ سے حاصل ہو سکتی ہے!   
 اور میرے لیے نجات کا سامان کہاں ہے؟ کہ نجات صرف   
 اور صرف تیرے ہی لطف و کرم سے میسر آ سکتی ہے!   
 صورتِ حال تو یہ ہے کہ؟

نہ تو بھلائی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے   
 بے نیاز ہے ،   
 اور،



کر دیتا ہے۔

تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتا اور اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو پکاروں بھی تو میری پکار اور دعا کا مجھے کوئی جواب ہی نہ ملے۔

تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے علاوہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا اور اگر میں اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید باندھوں بھی تو وہ امید ٹوٹ جائے۔

تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی ذات پر سہارا دے کر عزت عطا کی اور اس نے مجھے لوگوں کے سہارے پر چھوڑ کر رسوا نہیں کیا۔

تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مجھ سے محبت و الفت کا اظہار فرماتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔

تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مجھ سے ایسے علم و بردباری کا سلوک کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ ہی

نہیں کیا ہو!!

Translacion Movement  
آس لیے تو میرا رب میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور میری حمد کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔

اے میرے اللہ!

میں نے حصول مقصد کے راستوں کو تیری جانب کشادہ پایا مجھے امیدوں کی آنکھیں تیری بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں، میں نے دیکھا کہ جو لوگ تجھ سے امید باندھتے ہیں ان

کے لیے تیری فضل و کرم سے بھرپور مدد مباح ہے اور فریاد کرنے والوں کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ امیدیں باندھنے والوں کی حاجت برکری کے لیے تیار رہتا ہے اور تو تو خود ہی پریشان حال لوگوں کی جانب متوجہ اور ان کا انتہا سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔

اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے جو درد کرم کے حضور گڑگڑانا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کبھی لوگوں کے سوال رد کرنے کا بہترین عوض اور دنیا طلب لوگوں کی جمع پونجی سے بے نیازی کا بہترین سلیقہ ہے۔

مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری جانب سفر کرنے والے کا راستہ بہت قریب ہے، اور تو اپنی مخلوقات سے پنہاں نہیں ہوتا البتہ ان کے اعمال ان کے اور تیرے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں۔

اسی لیے میں اپنی تمناؤں کے ساتھ تیری جانب حاضر ہوا ہوں، اپنی حاجتوں کے ساتھ میں نے تیری جانب توجہ کی ہے، تجھ ہی کو میں نے اپنی مدد اور پناہ کا ٹھکانا قرار دیا ہے؛

اور،

میں اپنی دعاؤں میں تجھ ہی سے مربوط و متوسل

ہوا ہوں۔ حالانکہ میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ تو میری دعاؤں کو سُنے اور نہ ہی میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تو اپنے عفو و کرم کے سبب ان دعاؤں کو مجھ سے قبول فرمائے!!

بات یہ ہے کہ مجھے تیرے کرم پر اعتماد ہے، تیرے وعدے کی سچائی نے مجھے سکون مرحمت فرمایا ہے، تیری وحدانیت پر اپنے ایمان کے سبب مجھے پناہ کی امید ہے اور مجھے اپنی اس معرفت پر یقین ہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے اور نہ تیرے علاوہ کوئی الٰہ و معبود ہے۔ تو یگانہ ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔

اے میرے اللہ!

تو نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے، اور تیرا قول ہمیشہ حق اور تیرا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔:

”وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“

اور اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ کرو بے شک وہ تم

پر رحیم ہے اور رہے گا۔

اور اے میرے سید و سرور!

یہ بات تیری شان سے دُور ہے کہ تو سوال کا حکم دے کر عطا کو روک لے، حالانکہ تو اپنی مملکت کے باشندوں پر عطا و بخشش میں حد سے زیادہ احسان فرماتا ہے۔ اور تیری انتہائی رافت و محبت کے سبب تیری نعمتیں ان پر پے در پے آتی ہی رہتی ہیں۔

اے میرے معبود!  
تو نے میرے بچپن میں اپنی نعمت و احسان کے سایہ  
میں میری پرورش کی ، اور جوانی میں بھی تو ہی نے مجھے رہنمائی  
نیک نام کیا۔

تو اے وہ ؛  
جس نے دنیا میں اپنے احسان اور تفضل سے میری  
تربیت اور پرورش کی ، اور آخرت میں میرے لیے اپنے عفو و  
کرم کی جانب توجہ کا سامان فراہم فرمایا ؛  
میرے آقا !

تیرے سلسلہ میں میری معرفت نے تیری جانب میری رہنمائی  
کی اور تجھ سے میری محبت تیری بارگاہ میں میری شیفیع ہے۔  
اور مجھے اپنی اس دلیل پر وثوق اس لیے ہے کہ اس کی جانب  
تو ہی نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور میں اپنے اس سفارشی  
سے اس لیے مطمئن ہوں کہ سفارش قبول کرنے والا تو ہے۔

اے میرے سید و سردار !  
میں تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جس کو گناہوں نے  
گوناگوار کر دیا ہے۔

اے رب !  
میں تجھ سے اس دل کے ذریعہ راز و نیاز کر رہا ہوں  
جو جرم و خطا کی کثرت سے ہلاکت میں غوطہ زن ہے۔  
اے رب !



میں تجھے انتہائی خوف و ہراس ، رغبت و لگاؤ اور امید و بیم  
کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پیکار رہا ہوں۔  
میرے آقا!

میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنے گناہوں کی جانب دیکھتا  
ہوں تو آہ و زاری کرتا ہوں اور جب تیرے کرم پر نظر کرتا  
ہوں تو میری ڈھارس بندھ جاتی ہے۔

چنانچہ اگر تو مجھے بخش دے تو تو سب سے بہتر رحم  
فرمانے والا تو ہے ہی ، لیکن اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے  
تب بھی تو ظالم نہیں قرار پاسکتا۔  
اے اللہ!

مجھ میں یہ جو اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ میں تیرے  
اتنے ناپسندیدہ اعمال کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں  
وہ دراصل تیری سخاوت اور تیرے کرم کی وجہ سے ہے۔  
اور یہ جو میں اس بے حیائی اور بے باکی کے ساتھ سخت  
حالات اور انتہائی پریشانی کے موقعہ پر تیری پناہ حاصل کرنے  
کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں تو اس کا سبب تیری  
انتہائی شفقت و مہربانی ہے۔

میں نے تجھ سے امید اس لیے باز رہی ہے کہ میں جانتا  
ہوں کہ تو میری برائیوں کے باوجود مجھے میری خواہشات اور  
آرزوؤں میں ناکام و نامراد نہیں فرمائے گا۔  
اس لیے ،

تو میری امید کو سچا کر دکھا،  
اور  
میری دعا کو سن لے،  
اے! ان سب سے بہتر جن کو دعا کرنے والے پکارتے  
ہیں!  
اور

اے ان سب سے افضل جن سے امیدیں باندھنے والے  
امید باندھتے ہیں!  
اے میرے آقا!  
میری آرزوئیں بہت بڑھ گئی ہیں اور میرے اعمال  
بہت خراب ہو چکے ہیں،  
اس لیے،

تو اپنے عفو و درگزر سے مجھے اسی قدر مرحمت فرما  
دے جتنا میری آرزوؤں اور تمناؤں کا تقاضا ہے اور  
میرے برے اعمال پر میری گرفت نہ فرما۔  
کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ تو گناہگاروں  
کو سزا دے، اور تیرا علم اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ تو  
کو تباہی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔  
اور،

میں — تو،

اے میرے سید و سردار!

میں،  
 تیرے فضل و احسان کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہوں،  
 اور تیرے اس وعدے کے سبب تجھ سے بھاگ کر تیری ہی  
 جانب لپکا ہوں جو تو نے ان لوگوں کے متعلق کیا ہے جو  
 تیرے بارے میں حُسنِ ظن رکھتے ہیں۔

اے رب!  
 میں ذرّہ ناچیز کیا حقیقت رکھتا ہوں!؟ اور تجھے  
 میرا کیا ڈر!؟ اس لیے تو مجھے اپنے فضل کی بنا پر بخش دے  
 اور مجھ پر اپنے عفو کے ذریعہ احسان فرما۔

اے رب!  
 میری پردہ پوشی فرما کر مجھے بزرگی اور جلال مرحمت  
 فرما اور میرے قابلِ گرفت و سزا گناہوں کو اپنی ذات کی بزرگواری  
 کے طفیل معاف فرما دے۔

کیونکہ، **نہضت ترجمہ**  
 اگر آج تیرے علاوہ کوئی اور میرے گناہوں پر مطلع ہوتا  
 تو میں ہرگز یہ گناہ انجام نہ دیتا، اور اگر مجھے عذاب میں  
 جلدی کا خوف ہوتا تو میں یقیناً ان گناہوں سے پرہیز کرتا۔  
 لیکن،

میں نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ میرے نزدیک  
 تو تمام دیکھنے والوں میں سب سے کم مرتبہ اور بے قدر و قیمت  
 اور جاننے والوں میں سب سے کم اہمیت کا حامل ہے۔

بلکہ،

اے رب!

یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تو سب سے اچھا پردہ پوش  
سب سے بہتر حکم کرنے والا، سب سے زیادہ کریم، عیبوں  
کو چھپانے والا اور غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو  
اپنے کرم کے سبب گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے، اور  
اپنے حکم و بردباری کی بنا پر سزا میں تاخیر فرماتا ہے۔  
اس لیے تمام حمد تیرے ہی لیے ہے کیونکہ، تو علم کے  
بعد بردباری دکھاتا ہے اور قدرت اور گرفت کے باوجود مہما  
فرما دیتا ہے۔

میرے سلسلے میں تیری بردباری مجھے تیری نافرمانی پر  
اُبھارتی اور تیرے گناہوں کی جرأت دیتی ہے، تو جو میری  
پردہ پوشی کرتا ہے اس لیے تیرے حضور میری حیا ٹوٹ جاتی ہے  
اور تیری رحمت کی وسعت اور تیرے عفو کی عظمت کے سلسلہ  
میں میری معرفت نے مجھے اتنا جسور کر دیا ہے کہ میں تیرے حرام  
کیے ہوئے کاموں کی جانب بہت تیزی سے بڑھتا ہوں۔

اے حلیم و کریم! اے ہی و قیوم!

اے گناہوں کو بخشنے اور توبہ کو قبول کرنے والے!

اے انتہائی بڑے بڑے احسان کرنے والے!

اے قدیم الاحسان!

تیری انتہائی اعلیٰ درجہ کی پردہ پوشی کہاں ہے!؟ تیسری

جلیل القدر عفو کہاں ہے!؟ تیری وہ گشائش و آسانی  
 کہاں ہے جو بندوں سے بہت ہی نزدیک ہے!؟ تیری بہت  
 تیزی سے پہنچنے والی مدد کہاں ہے!؟ تیری وسیع رحمت  
 کہاں ہے!؟ تیری اعلیٰ درجہ کی عطا و بخشش کہاں ہے!؟  
 تیری خوشگوار موصفتیں کہاں ہیں!؟ تیری بیش قیمت مہمتیں  
 کہاں ہیں!؟ تیرا عظیم اور بے حد و حساب فضل کہاں ہے!؟  
 تیری جسیم اور بڑی بڑی نعمتیں کہاں ہیں!؟ تیرا قدیم اور ہمیشہ  
 سے ہونے والا احسان کہاں ہے!؟ اے کریم تیرا کرم کہاں ہے!  
 اپنے اسی کرم کے طفیل مجھے نجات مرحمت فرما دے  
 اور اپنی رحمت کے طفیل مجھے چھٹکارا مرحمت فرما دے۔

اے محسن، اے مجمل!

اے منعم، اے مفضل!

تیری سزا سے نجات کے سلسلہ میں میں نے اپنے اعمال  
 پر کوئی بھروسہ نہیں کیا ہے بلکہ اس سلسلہ میں میرا بھروسہ  
 تیرے اس فضل و کرم پر ہے جو تو ہم پر فرماتا رہتا ہے  
 کیونکہ تو صاحب تقویٰ اور صاحب مغفرت ہے، تو نے  
 نعمتوں کے ذریعہ احسان سے ابتدا کی ہے اور تو اپنے کرم  
 کے سبب ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔

یہی تو سبب ہے کہ ہم یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ ہم  
 تیری بارگاہ میں کس بات کا شکر ادا کریں!  
 اپنی ان مہلایوں کا جو تو نے ہمارے بارے میں مشہور

کر رکھی ہیں یا اپنی ان برائیوں کا جو تو نے چھپا رکھی ہیں ،  
یا ان بڑے اور کٹھن امتحانوں کا جن میں تو نے بہیں مبتلا  
کیا اور پھر ان کو ہم پر آسان فرما دیا یا ان بے شمار امتحانوں  
کا جن میں تو نے بہیں کامیابی عطا فرمائی اور عافیت سے نوازا۔  
اے اپنے چاہنے والوں کو جاہے والے اور اے اپنی  
جانب لپکنے والوں اور سب سے ٹوٹ کر اپنی جانب آنے  
وانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک !

تو احسان کرنے والا ہے اور ہم برائیاں کرتے ہیں !  
اس لیے اے رب ! جو قبیح باتیں ہم میں موجود ہیں تو ان  
سے اپنی ان جمیل باتوں کے سبب درگزر فرما دے جو تیرے  
پاس ہیں۔

اور اے رب !

کون سی جہالت ایسی ہے جسے تیرا لطف و کرم اپنے دامن  
میں نہ سمیٹ لے !؟ اور کون سا زمانہ ایسا ہے جو تیرے علم و  
بردباری کے زمانے سے طویل ہو !؟ تیری نعمتوں کے مقابلے  
میں میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے !؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے  
کہ ہم تیرے کرم سے اپنے اعمال کا مقابلہ کریں اور ان کو زیادہ  
سمجھیں !؟ اور یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ تو نے گناہگاروں پر  
اپنی جن نعمتوں کو وسعت دی ہے تو خود ہی ان کا دائرہ تنگ  
کردے !؟

اے بے پناہ بخشنے والے !

اور  
اے انتہائی رحمت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والے!

اے میرے آقا!

تیری عزت کی قسم،

اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے دھنکار بھی دے گا تب بھی

میں تیرے دروازے سے ہٹوں گا نہیں، اور نہ تیرے حضور

گڑ گڑانے اور تیری منت سماجت کرنے سے باز آؤں گا۔

کیونکہ میں نے تجھے تیرے جود و کرم کے ساتھ پہچانا ہے۔

اور تو جو خود چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے،

جس چیز سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے عذاب دیتا

ہے۔ اور جس پر چاہتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے اور

جس طرح چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔

نہ تجھ سے تیرے افعال کے بارے میں پوچھا جاسکتا ہے،

نہ تجھ سے تیرے ملک کے سلسلہ میں جھگڑا جاسکتا ہے، نہ

تیرے معاملہ میں شرکت کی جاسکتی ہے، اور نہ ہی کوئی فردِ احد

تیری تدبیر پر اعتراض کر سکتا ہے!

تخلیق و آفرینش اور حکم و فرمان تجھ ہی کو زیب دیتا

ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔

تمام جہانوں کا رب بابرکت اور بزرگ و برتر ہے!

اے رب!

یہ اس شخص کا قیام ہے جو تیری بارگاہ کی طرف منوجہ

ہوا ہے اور جس نے تیرے کرم سے پناہ طلب کی ہے، جس  
نے تیری نعمتوں اور احسانات سے محبت کی ہے،

اور،

تو —!

وہ سخی ہے کہ تیرا عفو و درگزر تنگ نہیں ہوتا،  
تیرے فضل و احسان میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوتا اور  
تیری رحمت میں کمی نہیں آتی۔

اسی لیے ہم نے بھی تجھ پر تیری ابدی عفو و درگزر اور  
عظیم فضل و احسان اور وسیع رحمت کے سبب وثوق و اطمینان  
کر لیا ہے۔

تو کیا اے رب!

تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو تیرے بارے  
میں ہمارے حسن ظن کے خلاف ہو یا یہ کہ تو ہماری امیدوں  
پر پانی پھیر دے گا؟

ہرگز نہیں، ہرگز نہیں!

.JMS

اے کریم!!

نہ تو تیرے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے اور نہ ہی تیری  
ذات سے ہمیں یہ امید اور توقع ہے۔

اے رب!

تیری ذات سے ہماری لمبی لمبی اور بے پناہ تمناؤں  
والبتہ ہیں اور ہمیں تیری ذات سے بڑی بڑی امیدیں ہیں۔



ہم نے تیری نافرمانی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ  
 تو ہماری پردہ پوشی فرما۔  
 ہم نے تجھے پکارا ہے اور تجھ سے دعا کی ہے  
 اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے!  
 تو اے ہمارے آقا! ہماری امیدوں کو سچ کر دکھا!!  
 کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنا  
 پر کس سلوک کے سزاوار ہیں۔

لیکن ہمارے بارے میں جو کچھ تو جانتا ہے، اس نے  
 نیز ہم جو تیرے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی  
 ذات سے ناامید اور محروم نہیں کرے گا، ان دونوں باتوں  
 نے ہمیں تیری جانب راغب کیا ہے۔

کیونکہ اگرچہ ہم تیری رحمت کے سزاوار نہیں ہیں مگر تو  
 اس بات کا اہل ہے کہ ہم پر اور گناہ گاروں پر اپنے وسیع  
 فضل و کرم کے سبب بخشش فرما۔  
 اس لیے ہم پر وہ سن و احسان فرما جس کا تو اہل  
 ہے اور ہم پر اپنی سخاوت کے دروازے کھول دے کیونکہ  
 ہم تیری عطاؤں کے حد سے زیادہ محتاج ہیں۔

اے غفار!

تو نے اپنے نور سے ہماری ہدایت کی ہے، تو نے  
 اپنے فضل کے ذریعہ ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے  
 اور ہم نے تیری نعمتوں کے سائے میں صبح و شام پرورش

پائی ہے۔  
اور اب ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں ،  
اور۔

اے ہمارے اللہ!  
ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے  
توبہ کرتے ہیں۔  
تو ہم پر اپنی نعمتوں کے ذریعہ محبت فرماتا اور اس  
کا اظہار کرتا ہے۔

اور ،  
ہم اپنے گناہوں کے ذریعہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں  
تیری بھلائیاں مسلسل ہماری جانب اترتی رہتی ہیں،  
اور  
ہماری برائیاں مستقل تیری جانب چڑھتی رہتی ہیں۔

اور

اے کریم بادشاہ! Move Translation

مسلل یہی ہوتا چلا آ رہا ہے اور آئندہ بھی مسلسل یہی  
ہوتا رہے گا کہ ہم تیرے حضور قبیح اعمال کے ساتھ حاضر  
ہوتے ہیں اور یہ بات تجھے اس بات سے ہرگز نہیں روکتی  
کہ تو ہمیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں میں غرق رکھے اور  
ہم پر اپنی نشانیوں کے ذریعہ فضل و کرم فرمائے۔  
پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات!

کہ ازل سے ابد تک تیرا حلم ، تیری بزرگی اور تیرا  
 کرم کتنا بے پایاں ہے !!  
 تیرے نام مقدس ہیں ، تیری حمد و ثناء جلیل ہے ،  
 تیرے آثار و افعال کرمہ ہیں ۔  
 اے میرے معبود!  
 تو ،

تیرا فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع اور تیرا حلم اس سے  
 کہیں زیادہ بلند مرتبہ ہے کہ تو میرے افعال اور میری خطاؤں  
 کے ساتھ میرا مقابلہ کرے ۔  
 عفو ، عفو ، عفو!

اے میرے سید و سردار ، اے میرے سید و سردار ،  
 اے میرے سید و سردار !!  
 اے میرے معبود!

ہمیں اپنی یاد میں مشغول فرما دے ، اپنی ناراضگی سے  
 امان مرحمت فرما دے ، اپنے عذاب سے سببات عطا کرنے  
 اپنی بے حساب اور پسندیدہ عطاؤں سے روزی عنایت فرما ،  
 اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کراہیں  
 اپنے گھر کے حج اور اپنے اس نبیؐ کے مزار کی زیارت کی توفیق  
 مرحمت فرما کہ جس پر اور جس کے اہل البیت پر تیرا درود ،  
 تیری رحمتیں ، تیری مغفرتیں اور تیری رضامندیاں ہیں ۔  
 بے شک تو اپنے بندوں سے قریب بھی ہے اور ان کی دعائیں قبول

میں فرماتا ہے۔  
 اور تو ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرما  
 نیز ہمیں اپنی امت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت  
 پر موت دے۔

اے میرے محبوبو!  
 مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ان دونوں پر تو اپنی  
 رحمتیں اس طرح ارزاں فرما جس طرح انھوں نے بچپن میں میری  
 تربیت کی اور میرے ناز اٹھائے تھے۔ تو ان دونوں کے احسانات کے  
 بدلے میں ان پر احسان فرما اور ان دونوں کی برائیوں کے بدلے  
 میں ان پر مغفرت کے دروازے کھول دے۔  
 اے میرے محبوبو!

مومنین و مومنات میں زندوں اور مردوں سب ہی  
 کو بخش دے اور ہمارے اور ان کے درمیان مہلایوں کے ذریعے  
 رابطہ استوار فرما دے۔  
 اے میرے محبوبو!

ہمارے زندوں اور مردوں، ہمارے حاضرین و غائبین،  
 ہمارے مردوں اور عورتوں، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں نیز  
 ہمارے آزاد افراد اور غلاموں سب ہی کو بخش دے۔  
 اللہ سے روگردانی کرنے والوں نے جھوٹ بولا اور وہ بہت  
 دور کی گزریں نیز کھلے ہوتے گھائے میں مبتلا ہوئے۔  
 بار اٹھا!

محمد و آل محمد پر درود و سلام نازل فرما، میرا انجام  
 بخیر فرما، دنیا اور آخرت کے جن معاملات نے مجھے غم و اندوہ  
 میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کے سلسلہ میں تو ہی میری کفالت  
 فرما، مجھ پر کسی ایسے شخص کو ہرگز مسلط نہ فرما جو مجھ پر رحم  
 نہ کرے، میرے لیے اپنی جانب سے باقی رہنے والی سپر معین  
 فرما، تو نے مجھے جو شانستہ نعمتیں مرحمت فرمائی ہیں وہ مجھ سے  
 ہرگز نہ چھین، اور مجھے اپنے فضل سے کشادہ، حلال اور پاک  
 پاکیزہ رزق مرحمت فرما۔

بار الہا!

اپنی نگہبانی کے ذریعہ میری نگہبانی فرما، اپنی حفاظت کے  
 ذریعہ میری حفاظت فرما اور اپنی پاسداری کے ذریعہ میری  
 پاسداری فرما۔  
 نیز،

مجھے اس سال اور ہر سال اپنے بیت الحرام کے حج اور  
 اپنے نبی و ائمہ علیہم السلام کے مزاروں کی زیارت کی توفیق  
 مرحمت فرما۔

اور اے رب!

ہمیں ان باشرط مشاہد اور مکرم مقامات سے خالی  
 نہ لوٹانا۔

پروردگارا!

تو میری جانب اس طرح پلٹ آ اور مجھے ایسی توبہ کی

توفیق مرحمت فرما کہ پھر میں کسی حالت میں تیری نافرمانی  
نہ کروں۔

اور

اے تمام جہانوں کے رب!  
جب تک میں باقی ہوں، اس وقت تک کے لیے بھلائی  
اور اس پر عمل نیز اپنے انتہائی خوف و خشیت کے بھرپور  
توفیقات میرے دل و ضمیر کی انتہائی گہرائیوں میں آتا رہے۔  
خداوند!

جب بھی میں نے یہ سوچا اور کہا کہ اب میں آمادہ اور  
مجہز ہو گیا ہوں، اور پھر میں تیرے حضور نماز کے لیے کھڑا  
ہوا اور تجھ سے راز و نیاز میں مشغول ہوا تو یکدم مجھ پر  
نماز کے دوران سُستی اور ادنگھ طاری ہو گئی اور عین اس  
وقت جب میں تجھ سے راز و نیاز میں مشغول تھا اس سُستی  
نے مجھ سے مناجات کی قوت سلب کر لی۔

مجھے کیا ہو گیا ہے۔

Translation: \_\_\_\_\_

MRS

ک،

جب بھی میں نے یہ سوچا کہ اب میں نے اپنے درپردہ  
معاملات کو درست کر لیا ہے، اور میری نشست توبہ کرنے  
والوں کی نشستوں جیسی ہو گئی ہے،

تو \_\_\_\_\_،

یکایک، میرے لیے ایسی بلا آ پہنچی جس کے سبب

میرے قدم ڈلگائے۔

اور

اے میرے آقا —!

یہ بلا میرے اور تیری خدمت کے درمیان رکاوٹ بن گئی!!

کہیں ایسا تو نہیں!

کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا، اور اپنی

خدمت سے معزول کر دیا ہے۔!!؟

یا،

شاید —!

تُو نے مجھے اپنے حق کو ہلکا پھلکا اور معمولی سمجھنے  
والا دیکھا۔ اس لیے تُو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔!

یا،

شاید —!

تُو نے مجھے جھوٹوں کی جگہ پایا، اس لیے تُو نے مجھے

دُور پھینک دیا۔! Translation

یا،

شاید ایسا ہوا ہو۔!

کہ؛

تُو نے یہ دیکھا ہو کہ میں تیری نعمتوں کا شکر نہیں  
ادا کرتا اس لیے تُو نے مجھے محروم کر دیا۔!

یا،

ممکن ہے کہ ؛  
تو نے مجھے علماء کی محفل میں غیر حاضر دیکھا ہو اس  
لیے تو نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہو۔ !

یا،  
ممکن ہے کہ ؛  
تو نے مجھے غافلوں کے درمیان دیکھا ہو اس لیے تو  
نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہو۔ !

یا،  
ہو سکتا ہے کہ ؛  
تو نے مجھے بیکاروں کی محفلوں کا خوگر پایا ہو اس  
لیے تو نے میرے اور ان کے درمیان دوستی پیدا  
کر دی ہو۔ !

یا،  
کہیں ایسا تو نہیں۔!!؟ ترجمہ

کہ ؛  
Translation Movement  
تو میری دعا سُننا ہی پسند نہ کرتا ہو اس لیے تو  
نے مجھے اپنے سے دُور کر دیا ہو۔!!؟

یا،  
کہیں ایسا تو نہیں۔!!؟

کہ،  
تو نے میرے جرائم خیر اپنے مقابلے میں میری جسارتوں



اور جراتوں کے سبب مجھے میرے ہی حال پر چھوڑ دیا ہو۔ اور  
یوں مجھے سزا دی ہو۔۔۔۔۔!!؟

یا،

کہیں ایسا تو نہیں۔!؟

کہ،

اپنی ذات سے میری بے حیائی اور بے باکی کے سبب تو  
نے مجھے یوں سزا دی ہو۔۔۔۔۔!!؟

اگر بات یہی ہے تو۔،

اے رب!

اگر تو معاف فرما دیتا تو یہ تیرے شایانِ شان تھا کیونکہ تو  
مجھ سے پہلے بے شمار گناہگاروں کو معاف فرما چکا ہے۔!  
کیونکہ۔،

اے رب۔!

تیرا کرم اس سے کہیں بزرگ و برتر و جلیل ہے کہ کوتاہ کاروں  
کو سزا دے!

Translation Movement

اور،

MRS

میں۔۔۔۔۔،

تیرے فضل و بخشش میں پناہ لیتا ہوں، تجھ ہی سے  
بھاگ کر تیری جانب آیا ہوں اور میں تیری چشم پوشی کے  
اس وعدہ کی فوری تکمیل کا طلبگار ہوں جو تو نے ان لوگوں  
سے کیا ہے جو تیرے بارے میں حُسنِ ظن رکھتے ہیں۔

اے میرے معبود!  
 تو اس سے کہیں زیادہ کشادہ فضل اور عظیم حلم کا  
 حامل ہے کہ تو مجھے میرے عمل کے ذریعہ تول یا میسری  
 خطاؤں کے سبب میرے قدم ڈگکا دے۔ !!  
 اے میرے سید و سردار!  
 میں کیا اور میری اوقات کیا۔ !!  
 تو،

میرے آقا!  
 مجھے اپنے فضل سے کچھ حصہ عطا فرما، اپنے عفو سے تھوڑا  
 بہت مجھے صدقہ کے طور پر مرحمت فرما دے۔ اپنی پردہ پوشی  
 سے مجھے پورے طور پر ڈھانپ دے اور اپنے ذاتی کرم اور  
 آبرو کے وسیلہ سے میری سزا معاف فرما دے۔ !!

میرے آقا!  
 میں وہ ننھا مٹا ہوں جس کی پرورش تو نے کی، میں  
 وہ جاہل ہوں جسے تو نے علم کے زیور سے آراستہ کیا، میں وہ  
 گم کردہ راہ ہوں جس کو تو نے ہدایت دی، میں وہ افتادہ  
 اور گرا پڑا شخص ہوں جسے تو نے بلندی مرحمت فرمائی،  
 میں وہ خوف زدہ ہوں جسے خوف سے تو نے امان مرحمت  
 فرمائی، میں وہ مہوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، میں وہ پیاسا  
 ہوں جسے تو سیراب کیا، میں وہ برہنہ ہوں جسے تو نے لباس  
 پہنایا، میں وہ فقیر ہوں جسے تو نے غنی کیا، میں وہ کمزور

ہوں جسے تو نے قوت عطا فرمائی، میں، وہ ذلیل ہوں جسے  
 تو نے عزت سے نوازا، میں، وہ بیمار ہوں جسے تو نے شفا  
 دی، میں، وہ سوالی ہوں جس کا سوال تو نے پورا کیا ہے،  
 میں، وہ گنہگار ہوں جس کی تو نے پردہ پوشی کی ہے، میں، وہ  
 خطاکار ہوں جس کی خطاؤں کو تو نے کم اور نظر انداز کیا،  
 میں، وہ قلیل ہوں جسے تو نے کثرت دی، میں، وہ کمزور شمار  
 کیے جانے والا ہوں جس کی مدد تو نے کی ہے اور میں، وہ  
 راندہ درگاہ ہوں جسے تو نے پناہ دی ہے۔

اس کے باوجود،

اے رب،

میں ہی وہ بھی ہوں —

جس نے کبھی بھی تنہائیوں میں تجھ سے حیا نہیں کی اور  
 نہ ہی اس نے محفلوں میں تیری پرواہ کی — !!  
 میں وہ ہوں کہ بڑی بڑی مصیبتوں نے میرا رخ کیا ہے  
 میں وہ ہوں جس نے اپنے آقا کے حضور جرات سے کام  
 لیا ہے، میں وہ ہوں جس نے بلند و بالا آسمانوں کی گردن توڑ دینے  
 والی ہستی کی نافرمانی کی ہے، میں وہ ہوں جس نے گناہوں  
 کی بجائے رشوت دی ہے، میں وہ ہوں کہ  
 جب بھی مجھے گناہوں کے سجالانے کے امکان کی خبر دی گئی  
 تو میں اس کی جانب تیزی سے لپکا،

اور،

میں وہی شخص ہوں — ،  
 جس کو تو نے گناہوں کے بعد توبہ کی مہلت دی مگر میں  
 پھر بھی باز نہ آیا ، تو نے میری پردہ پوشی کی مگر مجھے اس کے  
 باوجود شرم و حیا نہیں آئی ، بلکہ تیری اس پردہ پوشی پر تو میں  
 نے اور بھی گناہ کرنا شروع کر دیے یہاں تک کہ حدیں توڑ دیں ،  
 تب تو نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ، تو میں نے اس کی بھی پردہ  
 نہیں کی ، پھر تو نے اپنے حلم و بردباری کے سبب مجھے مزید مہلت  
 دی اور اپنی پردہ پوشی کے سبب میری اتنی پردہ پوشی کی جیسے تو  
 نے میرے گناہوں کو بھٹلا ہی ڈالا ہو اور میری نافرمانیوں کی سزا  
 سے مجھے معاف ہی کر دیا ہو ، گویا کہ خود تجھے میسری اس  
 ڈھٹائی کے سبب مجھ سے شرم آگئی ہو اور خود تو میری اس  
 بے حیائی کے سبب شرم و حیا میں ڈوب گیا ہو — !!

!!!

میرے محبوب! حضرت ترجمہ

اتنا ضرور ہے کہ: Translation Alou

جب میں نے تیری نافرمانی کی ، تو میری یہ نافرمانی تیری  
 ربوبیت کے انکار کی بنیاد پر نہیں تھی ، نہ ہی یہ صورت تھی کہ  
 میں اس موقع پر تیرے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا  
 نہ ہی اس کا سبب یہ تھا کہ میں تیری سزا کو خاطر میں نہیں  
 لا رہا تھا اور عذاب کے سلسلہ میں تیرے وعدے کو کوئی  
 اہمیت نہیں دے رہا تھا ،

بلکہ ،  
سچی بات تو یہ ہے کہ ؛  
غلطی اور خطا میرے سامنے آئی ، اور اس نے میرے لئے  
میرے نفس کو بہکا دیا ، پھر میری ہوا و ہوس مجھ پر غالب آگئی  
اور میری شقاوت نے اس سلسلہ میں میری مدد کی ، اور میرے  
بارے میں تیری بے پناہ پردہ پوشی نے مجھے عنبر در میں  
مبتلا کر دیا ،

چنانچہ ،  
میں نے اپنی پوری توانائیوں کو بروئے کار لا کر تیری  
نافرمانی اور مخالفت کی ——— !!  
تو ،

اب ——— ،  
مجھے کون تیرے عذاب سے بچا سکتا ہے ،  
اور ،

کل Translation Movement  
دشمنوں کے ہاتھوں سے مجھے کون نجات دلا سکتا ہے ،  
اور ،

اگر ——— ،  
تو نے اپنی (محبت کی) رسی کو مجھ سے توڑ لیا تو میں کس  
کی رسی سے وابستہ ہو سکوں گا ——— !!  
تو ،

واسے ہو میری رسوائی پر ،  
 خاص طور سے اس وقت جب تیری کتاب میرے ان تمام  
 اعمال کو گنا ڈالے جن کی حالت یہ ہے کہ ؛  
 اگر مجھے تیرے کرم اور تیری رحمت کی پہنائیوں اور وسعتوں  
 سے امید نہ ہوتی اور تو نے مجھے مایوسی و قنوطیت سے منع نہ  
 کیا ہوتا ،  
 تو میں جب اپنے ان گناہوں کو یاد کرتا تو یقیناً مایوس  
 ہو جاتا ،  
 اے وہ کہ جو ؛  
 ان سب میں بہتر ہے جن کو دعا کرنے والے پکارتے ہیں !  
 اور ،  
 ان سب میں افضل ہے جن سے امید رکھنے والے امید  
 رکھتے ہیں !

اے معبود حقیقی — !!

میں اسلام کے عہد و پیمان کے ذریعے تجھ سے متوسل  
 ہوں ، قرآن کی حرمت کے سبب تجھ پر اعتماد کرتا ہوں ، اور  
 امی ، قرشی ، ہاشمی ، عربی ، تہامی ، مکی اور مدنی نبی کے ذریعہ  
 تیرے حضور تقرب کا متمنی ہوں ،

تو میرے ایمان کے سبب میرے انس واطمینان کو  
 وحشت و بے سکونی میں نہ بدل ، اور میرے اجر و جزا کو  
 ایسے بندے کے اجر و جزا جیسا نہ قرار دے جس نے تیرے

علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہو ،

کیونکہ ،

کچھ گروہ اور اقوام ایسے بھی ہیں جو زبانی زبانی اس لیے  
ایمان لائے ہیں کہ اس کے ذریعہ اپنی جانیں بچائیں ، چنانچہ  
انہوں نے اپنی تمنائیں حاصل کر لیں ،  
لیکن ،

ہم ، تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے اس لیے ایمان لائے  
ہیں کہ تو ہم کو معاف فرما دے ،  
اس لیے ————— ،

تو ہمیں بھی ہماری آرزوؤں تک پہنچا دے ، اپنی ذات  
سے ہماری امیدوں کو ہمارے دلوں میں مضبوطی سے جمادے  
اور ثابت کر دے ، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں  
کو تاریکی اور گمراہی میں نہ ڈال اور ہمیں اپنی جانب سے  
رحمت مرحمت فرما ،  
کیونکہ تو تو ہے ہی وحاب اور کثرت سے عطا

کرنے والا — !

تیری عزت کی قسم — !

اگر تو مجھے اپنے درِ رحمت سے دھتکار دے گا تب  
مجھ میں تیری چوکھٹ سے ہلوں گا نہیں ، اور نہ ہی میں  
تیرے تعلق و چالپوسی اور تیرے حضور مسلسل گرد گڑا ہٹ و  
التماس سے باز آؤں گا ۔

کیونکہ ،

اے میرے سید و سردار!  
تُو نے مجھے اپنے کرم اور اپنی رحمت کی وسعت و پہنائیوں  
کی معرفت عطا کر دی ہے۔ —!  
تو ہی بتا —!  
کہ ،

بندہ اپنے آقا کے علاوہ اور کس کی طرف جائے؟ اور  
مخلوق اپنے خالق کے علاوہ اور کس کی پناہ حاصل کرے؟  
میرے معبود!

اگر تو مجھے اپنے قبر و غضب کی زنجیروں میں جکڑ بھی  
دے ، اور بہت سے دیکھنے والوں کے سامنے اپنی عطا کو  
مجھ سے روک لے ، اور میری ذلتوں اور رسوائیوں پر  
لوگوں کی نگاہوں کو متوجہ بھی کر دے ،  
یہاں تک کہ اگر ،

تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم بھی دے دے،  
اور

میرے اور نیکوکاروں کے درمیان جدائی بھی ڈال  
دے،

تو تب بھی ،

میں ،

تجھ سے اپنی امیدوں کو توڑوں گا نہیں ، اور نہ ہی



اس لگن کو توڑوں گا جو مجھے تیری بخشش کے سلسلہ میں ہے،  
 اور نہ ہی میرے دل سے تیری محبت نکلے گی،  
 میں تو اس کے باوجود،  
 نہ تو اپنے سلسلہ میں تیری عطاؤں کو فراموش کروں گا  
 اور نہ ہی دنیا میں تو نے جو میری پردہ پوشی کی ہے اسے  
 بھلاؤں گا —————!  
 اے میرے آقا!

میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینک ، اور  
 میرے اور حضرت مصطفیٰ اور ان کی آل جو تیری مخلوق میں  
 سب سے بہتر اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ  
 ہیں، کے درمیان ایک مضبوط تعلق خاطر قائم فرما دے ،  
 اور مجھے اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے درجہ میں منتقل  
 فرما دے، اور اپنے نفس پر میری آہ وزاری میں میسری  
 مدد فرما ،  
 کیونکہ ،

میں نے اپنی عمر کو فضولیات اور بے جا آرزوؤں میں  
 فنا کر ڈالا ہے ، اور اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جب مایوس  
 ہونے والے میری اصلاح اور سبھلائی سے مایوس ہو چکے ہیں ،  
 ایسی صورت میں ، مجھ سے زیادہ بد حال کون ہوگا ،  
 کہ ————— اگر میں اسی حالت میں قبر میں چلا گیا کہ میں نے  
 نہ تو اسے اپنی خواب گاہ کے طور پر تیار کیا ہے اور نہ

ہی اپنے بستر کے طور پر اپنے عمل صالح کے ذریعہ وہاں کچھ  
بچھایا ہے — تو مجھ پر افسوس ہی افسوس ہے!

پھر میں کیوں نہ روؤں! —

کیونکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے کہاں تک جانا ہے؟  
اور پھر میں مسلسل یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے  
برابر دھوکا دے جا رہا ہے، اور میرے شب و روز مجھ  
سے مکاری کر رہے ہیں اور ان حالات میں موت اپنے  
خونخاک پروں کے ساتھ میرے سر پر مٹلا رہی ہے — !!  
میں کیونکہ نہ روؤں — !!

میں اپنی قبر کی تاریکی پر رو رہا ہوں، میں اپنی لحد کی  
تنگی پر آہ و فغاں میں مصروف ہوں، میرا گریہ و زاری  
مجھ سے منکر و نکیر کے سوالات کے سلسلہ میں ہے، میرے نالے  
قبر سے ایسی حالت میں نکالے جانے کے سلسلہ میں ہیں کہ  
میں برہنہ ہوں گا، ذلت و رسوائی کی حالت میں ہوں گا،  
اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ناامیدی کے ساتھ کبھی  
دائیں اور کبھی بائیں نظر دوڑا رہا ہوں گا، جبکہ دوسری  
مخلوقات مجھ سے الگ کسی اور حالت میں ہوں گی — !!  
اس دن تو ہر شخص اس طرح اپنی حالت میں گرفتار ہوگا کہ وہ  
دوسروں سے بے نیاز ہوگا، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے  
اور خوشی کے مارے نہیں رہے ہوں گے اور کچھ چہرے گرد آلود  
ہوں گے اور ان پر ذلت و پشیمانی برس رہی ہوگی — !!

اے میرے سید و سردار!  
 میرا تمام تراطمینان، اعتماد، امید اور بھروسہ تجھ ہی پر  
 ہے، اور میرا تعلق خاطر تیری ہی رحمت سے وابستہ ہے، تو  
 جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے اور جسے دوست  
 رکھتا ہے اُسے اپنی کرامت و بزرگواری کے سبب ہدایت فرما  
 دیتا ہے،

تو،

تیری حمد ہے،

اس پر کہ،

تو نے میرے دل کو شرک سے پاک رکھا،

اور،

تیری حمد ہے،

اس پر کہ،

تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ ترجمہ

Translation Movement، تو کیا،

میں اپنی اس گنگ زبان سے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں؟!

یا،

عمل کے سلسلے میں اپنی انتہائی کوششوں کو بروئے کار لاکر تجھے

رامنی کر سکتا ہوں؟!

تیرے شکر کے مقابلے میں میری زبان کی اوقات ہی کیا

ہے؟!

اور ،  
تیری نعمتوں اور احسانات کے مقابلے میں میرے عمل کی  
حیثیت ہی کیا ہے !؟

میرے معبود!  
تیری بے پناہ بخششوں نے میری امیدوں کو بے حد و حساب  
بڑھا دیا ہے ، اور تیری صفت شکر نے میرے اعمال کو  
شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے ،  
میرے آقا ،

میری رغبت اور شوق تیری جانب ہے ، میرا خوف و ہراس  
تجھ سے ہے اور میری آرزوئیں تجھ پر آکر ختم ہوتی ہیں ۔  
میری امیدیں مجھے ہانک کر تجھ تک لے آئی ہیں ، اے  
میرے یگانہ مقصود میری تمام تر ہمتیں تیری بارگاہ میں آکر  
پناہ لیے ہوئے ہیں ، میرے شوق و حرص نے تیرے دربار  
میں اپنے پر پرواز کھولے ہیں ، اور میری مخلصانہ امیدیں  
اور میرے مخلصانہ خوف صرف اور صرف تجھ سے وابستہ ہیں ،  
میری محبت تجھ سے تسکین پاتی اور انس حاصل کرتی ہے ، میں  
نے اپنا ہاتھ تیری جانب پھیلایا ہے اور میرے خوف و ہراس  
نے تیری اطاعت کی رسی کو تھاما ہے ،

میرے آقا!  
میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے اور میرے خوف کا  
غم تیرے حضور مناجات سے ٹھنڈک حاصل کرتا ہے ،

تو،  
اے میرے آقا!  
اور،  
اے میری آرزو!  
اور،

اے میرے سوالوں کی انتہا!  
تو، میرے اور میرے ان گناہوں کے درمیان جدائی ڈال  
دے جو مجھے تیری اطاعت پر قائم رہنے میں رکاوٹ بنتے ہیں،  
کیونکہ میں تجھ سے سوال اس لیے کرتا ہوں کہ تیری  
ذات سے میری امیدیں بہت پرانی ہیں اور تیری ذات سے  
میری وہ لالچ بہت زیادہ ہے جسے تو نے اپنی ذات پر  
رافت و رحمت کے سبب واجب کر لیا ہے۔

اے خدا!  
معاملہ اور حکم تیرے لیے ہے تو یکتا و یگانہ ہے اور کوئی  
تیرا شریک نہیں پوری کی پوری مخلوق تیری عیال ہے اور  
تیرے قبضے میں ہے سب کے سب تیرے حضور خاضع ہیں  
اے تمام جہانوں کے پالنے والے! تیری ذات بابرکت ہے۔  
اے میرے مہربان!

اس وقت مجھ پر رحم فرما جب میری دلیلیں ٹوٹ  
جائیں اور جب تیرے جواب سے میری زبان گونگی ہو جائے  
اور تیرے سوال کے مقابلے میں میرے عقل و ہوش پریشان

اور معطل ہو جائیں۔

اے میری سب سے بڑی امید!

جب فقر و فاقہ انتہائی شدت اختیار کر جائے اُس وقت مجھے محروم نہ کرنا اور میری جہالت و نادانی کے سبب مجھے اپنی درگاہ سے رُد نہ کرنا، میرے صبر کی کمی کے سبب اپنے لطف و کرم کو مجھ سے دور نہ کرنا، میرے فقر و احتیاج کے سبب مجھے عطا فرما اور میرے صنعت و کمزوری کے سبب مجھ پر رحم فرما۔

اے میرے آقا!

میرا اعتماد تیری ذات پر ہے، میرا اطمینانِ خاطر تجھ سے وابستہ ہے، میری امید تیری ذات سے ہے اور میرا توکل تجھ پر ہے، میرا تعلق خاطر تیری رحمت سے وابستہ ہے، میں نے اپنا قافلہ اور اپنی سواری تیری بارگاہِ رحمت میں مٹھرائی ہے۔ میں نے اپنے مطالبوں کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا ہے اور اے پالنے والے! تیرے کرم کے سبب میں نے اپنی دعاؤں کا آغاز کیا ہے۔ میں اپنے فقر و فاقہ کی امیدیں لے کر تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ اپنی پریشانیوں اور نادانیوں کا جبران میں تیری بے نیازیوں کے طفیل کرتا ہوں۔ میرا قیام تیری عفو و درگزر کے سائے میں ہے۔ میں اپنی آنکھیں تیرے جود و کرم کی جانب اٹھائے ہوئے ہوں اور میری نظر ہمیشہ تیری بھلائیوں پر ہے۔

اَس لے تو،

مجھے آگ سے نہ جلانا، کیونکہ تو میری امیدوں کا مرکز  
مجھی ہے،  
اور،

نہ ہی تو مجھے جہنم کی گھاٹی میں بسانا کیونکہ تو میرے  
آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔  
اے میرے آقا!

تیرے احسان اور تیری بھلائیوں کے بارے میں مجھے جو  
حسنِ ظن ہے تو اسے جھٹلانا نہیں کیونکہ مجھے تجھ پر بڑا بھروسہ  
ہے اور مجھے اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا کیونکہ تو میری محتاجی  
سے اچھی طرح واقف ہے۔  
اے میرے مہبود!

اگر میری موت قریب آچکی ہو اور میرے اعمال نے مجھے  
تجھ سے قریب نہ کیا ہو تو میں تیرے حضور اپنے گناہوں کے  
اقرار کو عذر کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔

اے میرے مہبود!  
اب اگر تو مجھے معاف کر دے تو عفو و درگزر میں تجھ  
سے بہتر کون ہے؟

اور،  
اگر تو مجھ پر عذاب فرما تو تجھ سے زیادہ عدل کرنے والا  
اور کون ہو سکتا ہے؟  
تو تو اس دنیا میں میری غربت پر اور موت کے وقت

میری تکلیف پر، قبر میں میری تنہائی پر، لحد میں میرے خوف و  
 دہشت پر اور جب میں تیرے سامنے حساب کے لیے پیش کیا  
 جاؤں اُس موقع پر ذلت و رسوائی کی حالت پر رحم فرما۔  
 تو نے میرے جو عمل آدمیوں سے چھپا رکھے ہیں انھیں بخش  
 دے اور میری جن باتوں کی تو نے پردہ پوشی کی ہے ان کو میرے  
 لیے مٹا دے اور مجھ پر رحم فرما چونکہ میں بہت جلد بستر مرگ پر  
 اس حال میں ہوں گا کہ میری حرکت میرے دوستوں کے ہاتھ میں ہوگی  
 اور مجھ پر فضل و کرم فرما اس حالت میں کہ جب میرے نیک ہمسائے  
 مجھے اُلٹ پلٹ کر غسل دے رہے ہوں اور مجھ پر لطف و کرم  
 فرما اس وقت کہ جب میرے عزیز میرے جنازے کے سروں کو  
 کاٹھے دے رہے ہوں گے اور میں اس دنیا سے منتقل ہو کر  
 تن تنہا اپنی قبر میں تیرے حضور حاضر ہوں گا تو اس نئے گھر میں  
 میری غربت پر رحم فرما کہ میں وہاں بھی تیرے بغیر انس نہ حاصل  
 کر سکوں گا۔

اے میرے آقا! Translation

اگر تو مجھے میرے نفس کے احوالے کر دے گا تو میں ہلاک  
 ہو جاؤں گا۔

اے میرے سید و سردار!  
 اگر تو نے میری لغزشوں سے درگزر نہ کیا تو میں کس  
 سے مدد طلب کروں گا!؟ اور اگر تو نے میری قبر میں اپنی  
 جناحتوں کو روک لیا تو میں کس کے حضور گریہ و زاری کروں گا!



اور اگر تو نے میری تکلیفوں میں میری غمگساری نہ کی تو میں کس کی  
پناہ حاصل کروں گا۔!

اے میرے آقا!

اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میرے لیے کون ہے اور کون  
مجھ پر رحم کرے گا۔!؟ اور اگر تیرا فضل میرے شامل حال  
نہ ہو تو میں اپنی بے چارگی کے دن کس کے فضل و کرم کا  
امیدوار بنوں گا

اور جب میری مدت ختم ہو جائے گی تو میں اپنے گناہوں  
سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا۔

اے میرے آقا!

ایسی حالت میں مجھ پر عذاب نہ نازل فرما کہ جب میں  
نے تجھ سے امید باندھی ہو بلکہ اے میرے معبود! میری امیدوں  
کو پورا کر دے اور میرے خوف کو امن و اطمینان سے بدل دے  
کیونکہ گناہوں کی کثرت کے سبب میں تیری ذات سے غفور و درگزر  
کے علاوہ اور کسی چیز کی امید نہیں رکھتا۔

اے میرے سید و سرور!

میں تجھ سے اس چیز کا سوالی ہوں جس کا میں مستحق  
نہیں ہوں لیکن تو اہل تقویٰ بھی ہے اور اہل مغفرت بھی  
اس لیے تو مجھے بخش دے اور اپنی نگاہ کرم سے ایسا لباس  
پہنا جو خود مجھ سے میری برائیوں کو چھپا ڈالے اور پھر اس  
لباس کے پردے میں تو میری ان برائیوں کو بھی بخش دے اور

پھر کبھی بھی ان کے بارے میں میرا مواخذہ نہ فرما کیونکہ تو ہمیشہ سے احسان کرنے والا اور بہت بڑی بڑی بخششیں کرنے والا اور بزرگانہ درگزر کرنے والا ہے۔

اے میرے محبوب!

تو ہی تو وہ ہے کہ جس کا احسان ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتے اور ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو تیری خدائی کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔!

تو پھر،

اے میرے آقا!

یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرا یہ احسان اس شخص تک نہ پہنچے جو تجھ سے سوال کرے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ تمام مخلوقات تیری ہے اور تمام امور تیرے ہاتھ میں ہیں۔

اے تمام جہانوں کے پالنے والے! تیری ذات بابرکت ہے اور بلند مرتبہ و پاکیزہ۔

اے میرے آقا! *ترجمہ*  
Translation: Moven!

تیرا بندہ تیرے در پر حاضر ہے اس کی یہ حاضری تیرے حضور بے چارگی کی حاضری ہے۔ وہ تیرے احسان کے دروازے پر اپنی دعاؤں کے ساتھ حلقہ گبوٹ ہے اور اپنے دل میں چھٹی ہوئی امیدوں کے سبب تیری نظرِ کرم کا طلبگاہے۔

اس لیے،

اپنا کریم چہرہ مجھ سے نہ موڑ اور میں جو کچھ کہتا ہوں

تو اُسے مان جا۔  
 کیونکہ میں تجھے اس دعا کے ساتھ اس لیے پکار رہا ہوں  
 کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے رُود نہیں کرے گا کیونکہ  
 میں تیری رانت و رحمت کو پہچانتا ہوں۔

اے میرے معبود!  
 تیری ذات وہی تو ہے جو سوالیوں سے تھکتی نہیں ہے  
 اور جسے عطا و بخشش سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو ویسا  
 ہے جیسا تو خور کھتا ہے اس سے کہیں مندو برتر  
 اور جو پچھ ہم تیرے بارے میں کہتے ہیں تو اس سے کہیں  
 بلند و برتر ہے —!

خداوند! خداوند!  
 میں تجھ سے صبر جمیل ، فرجِ قریب ، سچی گفتگو اور اجرِ  
 عظیم کا سوالی ہوں۔

پالنے والے! حضرت تاج محمد  
 میں تجھ سے تمام تر بھلائیوں کا سوالی ہوں۔ ان بھلائیوں  
 کا بھی جنہیں میں جانتا ہوں اور ان بھلائیوں کا بھی جنہیں میں  
 نہیں جانتا۔

خداوند! خداوند!  
 میں تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا طلب گار ہوں جنہیں  
 تیرے نیکو کار بندوں نے تجھ سے طلب کیا۔  
 اے وہ جو ان ہستیوں میں سب سے بہتر ہے جن

سے سوال کیا جاتا ہے۔!  
 اے وہ جو ان ہستیوں میں سب سے زیادہ سخی ہے جو  
 عطا کرتی ہیں۔!

میری ذات، میرے اہل خاندان، میرے والدین، میری  
 اولاد، میرے غم گساروں اور میرے اُن بھائیوں کے سلسلے میں  
 میرا سوال پورا کر دے جو تیری خاطر میرے بھائی بنے ہیں۔  
 میری زندگی کو خوشحال کر دے، میری مروت کو آشکار  
 فرما دے۔ میرے تمام حالات کی اصلاح فرما دے مجھے  
 ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی عمر طولانی اور جن کے  
 عمل نیک ہیں، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے  
 اور جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ اور جنہیں تو نے ہمیشہ  
 رہنے والی خوشیوں اور سہترین کرامتوں اور مکمل ترین زندگی  
 کے ساتھ پاکیزہ حیات سے زندگانی عطا کی ہے۔  
 کیونکہ تو وہ کرتا ہے جو تو خود چاہتا ہے اور تو وہ ہرگز  
 نہیں کرتا جو دوسرے چاہتے ہیں۔

اے میرے معبود!  
 مجھے اپنے مخصوص ذکر سے محقق کر دے اور کسی ایسے  
 عمل کو جو رات کے لمحات یا دن کے گوشہ و کنار میں انجام  
 پا کر تیرے تقرب کی دلیل بنے اُسے ریا کاری، خود نمائی،  
 بطلت اور عیاشی کا سبب قرار نہ دے، اور مجھے ان بندوں  
 میں سے قرار دے دے جو تیرے حضور خاشع ہیں۔

اسے میرے معبود!

مجھے رزق میں وسعت، وطن میں امن و امان مرحمت فرما  
اور اہل خاندان، مال و دولت اور اولاد کو میری آنکھوں کی  
ٹھنڈک بنا دے، اور تو نے مجھ پر جو نعمتیں نازل کی ہیں  
ان میں میرے لیے مقام و منزلت معین فرما۔ میرے جسم  
کو صحت و سلامتی، بدن کو قوت عطا فرما، میرے دین کو  
محفوظ کر دے اور مجھے ہمیشہ ہمیش تمام عمر اپنی اور اپنے  
رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند  
رکھ اور مجھے ان بندوں میں سے قرار دے جن کے لیے تیرے  
وجود کا ہر اُس بھلائی میں سب سے زیادہ حصہ ہے جسے  
تو رمضان اور لیلة القدر میں نازل کرتا ہے یا کرے گا۔ اور  
اس رحمت میں بھی ایسا ہی حصہ قرار دے جسے تو ہر سال  
نازل کرتا اور اپنے بندوں میں پھیلا دیتا ہے۔ اُس عافیت  
میں بھی میرا حصہ ایسا ہی ہو جسے تو اپنے بندوں کو پہناتا  
ہے۔ ان بلاؤں کی دوری میں بھی میری شرکت ایسی ہی ہو  
جن کو تو اپنے بندوں سے دور کرتا ہے۔ ان بھلائیوں میں بھی  
میرا حصہ اتنا ہی فراوان ہو جن کو تو اپنے بندوں سے قبول  
کرتا ہے اور ان بڑائیوں کی بخشش و درگزر میں بھی میری شرکت  
ایسی ہی ہو جن کو تو اپنے بندوں پر معاف فرما دیتا ہے۔ اور  
تو مجھے اس سال بھی اور ہر سال اپنے محترم گھر کا حج عطا فرما  
اور اپنے وسیع فضل سے مجھے کشادہ رزق مرحمت فرما۔

اے میرے آقا!

میرے بڑائیوں کو مجھ سے دور کر دے۔ میرے قرض اور مظالم کو اس طرف سے ادا کر دے کہ میں ان میں سے کسی چیز سے پریشانی اور اذیت نہ اٹھاؤں۔ میرے مقابلے میں میرے مخالفوں کے کان بند کر دے اور میرے دشمنوں، مجھ سے حسد کرنے والوں اور مجھ سے بغاوت کرنے والوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دے نیز ان کے مقابلہ میں میری مدد فرما،

میری آنکھوں کو ٹھنڈا اور روشن فرما دے، میرے حسن ظن کو سچ کر دکھا، میرے دل کو شاداں و فرحاں کر دے، میری پریشانیوں اور تفکرات سے مجھے سبقت عطا فرما کر مجھے ان سے نکال دے، تیری تمام مخلوقات میں سے جو بھی میرے بارے میں بڑا ارادہ کرے اسے میرے قدموں کے نیچے روند ڈال، شیطان اور بادشاہوں نیز بڑے اعمال کے شر سے تو میری کفایت و حفاظت فرما، مجھے تمام کے تمام گناہوں سے پاک فرما دے، اپنے عفو و کرم کے طفیل مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے رحم و کرم کے طفیل مجھے جنت میں پہنچا دے، اپنے فضل و کرم کے سایہ میں حورالعین سے میرا ازدواج فرما۔

اور،

مجھے اپنے صالح اولیاء یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے ملحق فرما دے، جو سب کے سب نیکوکار، پاک و پاکیزہ اور بھلے لوگ ہیں، کہ ان پر نیز ان کے

جسموں اور ان کی روحوں پر تیرا درود، تیری رحمت اور تیری  
برکتیں ہوں۔

میرے محبوب!

اور،

میرے آقا!

تیرے عزت و جلال کی قسم!

اگر،

تُو نے،

مجھے، میرے گناہوں کے ساتھ بلایا،

تو،

میں بھی،

تجھے، تیرے عفو و درگزر کے ساتھ پکاروں گا۔!

اور،

اگر،

نہضت ترجمہ

Translation Movement

مجھے، میری بدبختیوں کے ساتھ طلب فرمایا،

تو،

میں بھی، تجھے تیرے کرم اور بزرگواری کے ساتھ آواز

دوں گا۔!

اور،

اگر،

تو نے ،  
مجھے ، جہنم کی آگ میں جھونک دیا ،  
تو ،

میں ،  
جہنم والوں کو اپنی اس محبت سے خیردار کروں گا جو مجھے  
تجھ سے ہے۔ !

میرے معبود!  
اور ،

میرے آقا!  
اگر تو ، اپنے اولیاء اور دوستوں نیز اپنے مطیع و فرمانبردار  
بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں بنے گا ،

تو پھر ،  
گناہگار کس کی درگاہ پر جا کر آہ و زاری کریں گے۔ !؟

اور ،  
اگر تو ، وفاداروں کے علاوہ کسی کو معزز و مکرم نہیں  
کرے گا ،

تو پھر ،  
بدکار ، کس سے مدد طلب کریں گے۔ !؟

میرے معبود!  
اگر تو نے ، مجھے جہنم میں ڈالا ، تو اس سے تیرے نبی کا  
دشمن خوش ہوگا ،



اور،  
اگر تو نے، مجھے جنت میں بھیج دیا تو اس سے تیرا نبی شادان  
فرماں ہوگا،

اور،  
اللہ کی قسم!  
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ، تجھے اپنے دشمن کی خوشی کے مقابلہ  
میں اپنے نبی کی خوشی زیادہ پسند ہے۔

بارِ الہا!  
تیری بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ تو میرے دل کو اپنی  
محبت و خشیت، اپنی کتاب کی تصدیق، اپنی ہستی پر ایمان،  
اپنی جدائی کے غم اور اپنی ملاقات کے شوق سے لبریز کر دے:  
اے صاحبِ جلال و اکرام!

اپنی ملاقات کو میرے لیے اور میری ملاقات کو اپنے لیے  
محبوب قرار فرما دے۔

اور،  
Translation Movement  
اپنی ذات سے میری ملاقات کو راحت و گمشائش و کرامت و  
بزرگواری کا سبب بنا دے۔

بارِ الہا!  
مجھے ان نیکوکاروں میں ملا دے جو گزر چکے ہیں، اور ان  
نیکوکاروں میں سے قرار دے جو باقی ہیں، مجھے نیکوکاروں کے  
راستہ پر گامزن فرما، ہوائے نفس کے خلاف میری ان ہی چیزوں

کے ذریعہ مدد فرما جن کے ذریعہ تو نے نیکوکاروں کی اُن کے  
 نفس کے سلسلہ میں مدد کی ہے ، میرے عمل کو بہترین انداز پر  
 ختم کر ، اور اپنی رحمت کے طفیل اس کے سلسلہ میں جنت کو  
 میرا ثواب قرار دے ، جو بہترین نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں  
 ان کے سلسلہ میں میری مدد فرما ،

اور ،

اے رب ! مجھے ثبات قدم اور استقلال مرحمت فرما ،

اور

اے تمام جانوں کے پروردگار ! جن برائیوں اور ہلاکتوں  
 سے تو نے مجھے نجات دی ہے دوبارہ مجھے ان میں نہ ڈال۔!  
 اے میرے معبود !

میں تجھ سے ایسے ایمان کا طلبگار ہوں جس کی مدد  
 تیری ملاقات سے پہلے ختم نہ ہو ، جب تک میں زندہ رہوں تو  
 مجھے اسی ایمان پر زندہ رکھ ، اور جب میں مردوں تو تو مجھے اسی  
 ایمان پر موت عطا فرما ، نیز جب مجھے اٹھایا جائے تو تو  
 مجھے اسی ایمان کے ساتھ اٹھا ،

نیز ،

میرے دل کو اپنے دین کے سلسلے میں ریاء و خودنمائی،  
 شک اور ظاہر سازی سے اس حد تک بیزار و مبرا فرمائے  
 کہ میرا عمل فقط تیرے لیے خالص ہو جائے۔ !

ہو اللہ !

مجھے اپنے دین میں بصیرت ، اپنے حکم کا فہم ، اپنے علم میں تفقہ اور سوجھ بوجھ ، اپنی رحمت کے دونوں کفیل اور حقے اور ایسا ورع عطا فرما جو مجھے تیری ہر نافرمانی سے روک دے۔  
 نیز ، تو ، میرے چہرے کو اپنے نور سے درخشاں و منور سفید فرما دے ، اور میری رغبت اور دلچسپیوں کو ان چیزوں میں محصور کر دے جو تیرے پاس ہیں ، اور مجھے اپنے راستہ نیز اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر موت مرحمت فرما۔

بارالہا!

میں بستی ، بددلی ، غم ، بزدلی ، کنجوسی ، غفلت ، قسوت ، مسکنت اور فقر و فاقہ ، تمام قسم کی بلاؤں ، اور ظاہری و باطنی ہر قسم کے فواحش سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔

میں ، ایسے نفس سے جو کبھی قانع نہ ہو ، ایسے پیٹ سے جو کبھی بھرے نہیں ، ایسے دل سے جو کبھی خاشع نہ ہو ، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے اور ایسے عمل سے جو کوئی نفع نہ پہنچائے تیری پناہ کا منتنی ہوں ،

اے رب!

میں ، اپنے نفس ، اپنے دین ، اپنے مال اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس کے سلسلہ میں پھٹکار زدہ شیطان کے تسلط سے پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔

بارِ الہا!

کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو مجھے تیرے قہر و غضب سے  
بچا سکے ، اور نہ ہی میں تیرے علاوہ کسی میں ایسی صلاحیت پاتا  
ہوں کہ وہ ملجا و ماویٰ اور پناہ گاہ بن سکے ، اس لیے ، مجھے اپنے  
عذاب میں سے کسی بھی عذاب میں مبتلا نہ فرما ، نہ تو تو مجھے  
ہلاکت میں ڈال اور نہ ہی ، دردناک عذاب میں مبتلا فرما۔

میرے معبود!

میرے اعمال کو قبول فرمائے ، میرے ذکر کو بلند اور عام  
کر دے ، میرا درجہ بڑھا دے اور میرے بوجھ کو میرے کندھوں  
سے اتار دے ،

مجھے میری خطاؤں کے ساتھ نہ یاد فرمانا ، اور جنت نیز  
اپنی رضا و خوشنودی کو میری نشست و برخاست ، میری گفتگو  
نیز میری دعا کا ثواب قرار دینا۔

اور ،

اے رب! Translation Movement

میں نے جو کچھ تجھ سے طلب کیا ہے وہ سب تو مجھے عطا  
فرما دے اور اپنے فضل و کرم میں اضافہ کر دے ،  
کیونکہ ،

اے تمام جہانوں کے پالنے والے!

میں تیری جانب مائل اور تیرا مشتاق ہوں۔

بارِ الہا!

تُو نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جو لوگ ہم پر ظلم کریں ہم انہیں معاف کر دیں ، اور ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ، اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے کیونکہ تو ہائے مقابلہ میں معاف کرنے میں زیادہ برتری رکھتا ہے ۔

اور تُو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سوالی کو رد نہ کریں ، اور ہم خود تیرے حضور سوالی بن کر آئے ہیں ، تو اب تو ہمیں ہماری ضرورت پوری کیے بغیر نہ پلٹانا ۔

اور تُو نے ہمیں اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ مہلانی کرنے اور ان پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے ، اور ہم تیرے غلام ہیں ، اس لیے تو ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے ، اے میری تکلیف میں میری پناہ گاہ ! اور ،

اے میری سختیوں میں میرے مددگار ! میں تیرے حضور پناہ لینے حاضر ہوا ہوں ، تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں ، اور تیری بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتا ہوں ، نہ تو میں تیرے علاوہ کسی اور کے حضور نالہ و فریاد کرتا ہوں ، اور نہ ہی میں تیرے علاوہ کسی سے حالات کی اصلاح و کشادگی کا طلبگار ہوں ، اس لیے ،

تو میری مدد فرما ، اور مجھ سے مصائب کے بادل چھانٹ دے ، اے وہ جو قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہے !

اور،  
اے وہ جو بے شمار باتوں کو معاف فرمادیتا ہے!  
آسان باتوں کو مجھ سے قبول فرمائے اور میری اکثر و بیشتر  
خطاؤں کو معاف فرمادے،

کیونکہ،  
تو، رحیم بھی ہے اور غفور بھی،

بارِ الہا!  
میں تجھ سے ایسے ایمان کا طلبگار ہوں، جس سے میرا دل  
بشارت حاصل کرے،

اور،  
اور ایسے یقین کا مستحق ہوں کہ جس کے بعد میں یہ جان  
جاؤں کہ مجھے صرف ان ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں  
تُو نے میرے لیے لکھ دیا ہے،

اور،  
تُو مجھے زندگی میں ان چیزوں سے مطمئن کر دے جن کو  
تُو نے میرے لیے مقسوم کر دیا ہے۔  
اے ارحم الراحمین!!

# زیارتِ ناحیہ

زیارتِ ناحیہ ہمارے بادشاہِ حقیقی امامِ عصرؑ کا وہ درد بھرا اثر ہے جو آنحضرتؐ نے اپنے جدِ سید الشہداء حضرت امام حسینؑ کی قبر مبارک پر پڑھا تھا۔

نہضت ترجمہ  
Translation Movement  
.MS

## زِيَارَتِ نَاحِيَةِ

رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ بِرَحْمَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى يُوسُفَ الَّذِي  
نَجَّاهُ اللهُ مِنَ الْجُبِّ بِعَظَمَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى مُوسَى الَّذِي فَتَقَّ  
اللهُ الْبَحْرَ لَهٗ بِقُدْرَتِهِ السَّلَامُ  
عَلَى هَارُونَ الَّذِي خَصَّهُ اللهُ  
بِنُبُوَّتِهِ السَّلَامُ عَلَى شُعَيْبٍ  
الَّذِي نَصَرَهُ اللهُ عَلَى أُمَّتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى دَاوُدَ الَّذِي تَابَ  
اللهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ السَّلَامُ عَلَى  
سُلَيْمَانَ الَّذِي ذَلَّتْ لَهُ  
الْجِنُّ بِعِزَّتِهِ السَّلَامُ عَلَى  
أَيُّوبَ الَّذِي شَفَاهُ اللهُ مِنْ  
عَلَّتِهِ السَّلَامُ عَلَى يُونُسَ الَّذِي  
أَنْجَاهُ اللهُ مَضْمُونَ عَدْتِهِ السَّلَامُ  
عَلَى نَرَكِرِيَّا الصَّابِرِ فِي  
مِحْنَتِهِ السَّلَامُ عَلَى يَحْيَى  
الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ بِشَهَادَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى عُزَيْرِ بْنِ الَّذِي

السَّلَامُ عَلَى آدَمَ صَفْوَةِ اللهِ  
مِنْ خَلِيقَتِهِ السَّلَامُ عَلَى  
شَيْثٍ وَوَلِيِّ اللهِ وَخَيْرَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى إِدْرِيسَ الْقَائِمِ  
بِحُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَى نُوحٍ  
الْمُجَابِ فِي دَعْوَتِهِ السَّلَامُ  
عَلَى هُودٍ الْمُدُودِ مِنَ اللهِ  
بِمَعُونَتِهِ السَّلَامُ عَلَى صَالِحٍ  
الَّذِي وَجَّهَهُ اللهُ بِكِرَامَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الَّذِي  
اجْتَبَاهُ اللهُ بِخَلْقِهِ السَّلَامُ  
عَلَى إِسْمَاعِيلَ الَّذِي فَدَاهُ  
اللهُ بِذِيئِهِ عَظِيمٍ مِنْ جَنَّتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى إِسْحَاقَ الَّذِي  
جَعَلَ اللهُ السُّبُوءَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى يَعْقُوبَ الَّذِي



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اپنی رحمت سے دوبارہ بنائی دی  
 سلام یوسفؑ پر جن کو خدا نے اپنا کرم  
 عظیم فرما کر کنویں سے نجات دی  
 سلام موسیٰؑ پر جن کے لیے خدا نے اپنی  
 قدرت سے دریا کو خشکافتنہ کر دیا سلام  
 ہارون پر جن کو خدا نے اپنی نبوت سے  
 سے مخصوص قرار دیا سلام شعیب  
 پر جن کو خدا نے ان کی امت پر غالب  
 کیا سلام داؤد پر جن کے ترکِ آولی  
 کو اللہ نے معاف کیا سلام  
 سلیمان پر جن کیلئے خدا کی دی ہوئی عبت  
 کی بدولت قوم جن تابع ہو گئی سلام  
 ایوب پر جن کو خدا نے ان کی بیماری  
 سے شفاء عطا کی سلام یونس پر خدا نے  
 ان کے اس وعدہ کو پورا کیا جسکی انھوں نے  
 ضمانت کی تھی سلام زکریا پر جو اپنی شدید  
 آزمائش میں بھی صابر رہے سلام یحییٰ پر  
 جن کا مرتبہ اللہ نے ان کی شہادت  
 سے اور بڑھا دیا سلام عزیز پر جن کو خدا نے

سلام آدم پر جو مخلوق خدا میں سے برگزیدہ  
 خدا اور خلیفہ خدا ہیں۔ سلام  
 شیش پر جو ولی خدا اور پسندیدہ  
 خدا ہیں۔ سلام ادریس پر جو اپنی دلیل  
 کے ساتھ (جنت میں) مقیم ہیں سلام  
 نوح پر جن کی دُعا قبول کی گئی سلام  
 ہود پر جن کی اللہ کی طرف سے  
 مخصوص مدد کی گئی سلام صالح پر  
 جن کو اللہ نے اپنے کرم سے ذی شان  
 قرار دیا۔ سلام ابراہیم پر جن کو اللہ نے  
 بنی خلت سے سرفراز کیا۔ سلام  
 عیسیٰ پر جن کے لیے۔ اللہ نے  
 عظیم کی قرار داد کے ساتھ اپنی  
 نیت سے فدیہ بھیجا۔ سلام اسحاق پر  
 ہکی ذریت میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ  
 رسلام یعقوب پر جن کو اللہ نے

أَحْيَاهُ اللَّهُ بَعْدَ مَيِّتَتِهِ السَّلَامُ  
عَلَى عَيْسَى رُوحِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ  
وَصَفْوَتِهِ السَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ  
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  
خُصَّ بِأَخْوَتِهِ السَّلَامُ عَلَى  
فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ  
وَوَصِيِّ أَبِيهِ وَخَلِيفَتِهِ السَّلَامُ  
عَلَى الْحُسَيْنِ الَّذِي سَجَّحَتْ  
نَفْسُهُ بِمُهْجَتِهِ السَّلَامُ عَلَى  
مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ  
السَّلَامُ عَلَى مَنْ جَعَلَ اللَّهُ الشَّفَاءَ  
فِي تَرْبَتِهِ السَّلَامُ عَلَى مَرَايِلِ الْجَابَةِ  
مَحْتِ قَبْتِهِ السَّلَامُ عَلَى مَرَايِلِ الْأُمَّةِ  
مِنْ دُرِّيَّتِهِ السَّلَامُ عَلَى ابْنِ خَاتَمِ  
الْأَنْبِيَاءِ السَّلَامُ عَلَى ابْنِ سَيِّدِ  
الْأَوْصِيَاءِ السَّلَامُ عَلَى ابْنِ فَاطِمَةَ  
الزَّهْرَاءِ السَّلَامُ عَلَى ابْنِ خَدِيجَةَ

الْكُبْرَى السَّلَامُ عَلَى بِنِ  
سَدْرَةَ الْمُنْتَهَى عَلَى الْمُرْمَلِ  
بِالِدِمَاءِ السَّلَامُ عَلَى  
مَهْتُوكِ الْخَبَاءِ السَّلَامُ  
عَلَى خَامِسِ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ  
السَّلَامُ عَلَى غَرِيبِ  
الْغُرَبَاءِ السَّلَامُ عَلَى شَهِيدِ  
الشُّهَدَاءِ السَّلَامُ عَلَى قَتِيلِ  
الرَّادِّيَاءِ السَّلَامُ عَلَى سَاجِنِ  
كُرْبَلَاءِ السَّلَامُ عَلَى  
مَنْ بَكَتَهُ مَلَائِكَةُ  
السَّمَاءِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ ذُرْبَتُهُ  
الْأَنْبِيَاءِ السَّلَامُ عَلَى يَعْسُوبِ  
الَّذِينَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ نَزَلَ  
الْبُرَاهِينِ السَّلَامُ عَلَى الْأُمَّةِ  
السَّادَاتِ السَّلَامُ عَلَى الْجِيُودِ  
الْمُضَرَّجَاتِ السَّلَامُ عَلَى الشُّبَا  
الذَّابِلَاتِ السَّلَامُ عَلَى النَّفُوسِ  
الْمُضْطَمَّاتِ السَّلَامُ عَلَى الْأَرْفَعِ

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا سلام  
 عیسیٰ پر جو بزبان وحی اللہ کی روح اور اللہ  
 کا کلمہ میں۔ سلام محمد مصطفیٰ پر جو محبوب خدا  
 اور پسندیدہ خدا ہیں۔ سلام امیر المؤمنین  
 علی ابن ابی طالب پر جن کو پیغمبر  
 کے بھائی ہونے کا مخصوص شرف دیا گیا  
 سلام فاطمہ زہراؑ دختر رسول اللہ  
 پر سلام ابو محمد حسن مجتبیٰ پر جو اپنے  
 باپ کے وصی و جانشین ہیں۔  
 سلام حسین پر جنہوں نے راہ خدا میں اتنا  
 زخمی ہونے کے بعد جو جان ہم میں باقی رکھی تھی  
 وہ بھی دیدی اس پر سلام جس نے فتنی اور  
 اور آشکارا خدا کی اطاعت کی اس پر سلام جسکی  
 خاک ہیرا اللہ نے اتر شفا قرار دیا سلام اس پر  
 جس کے قبۃ کے نیچے دعائیں قبول ہوتی  
 ہیں اس پر سلام جس کی ذریت سے قیامت  
 تک امام رہینگے۔ آخری پیغمبر کے فرزند پر سلام  
 سردار اوصیا (علیؑ) کے فرزند پر سلام فاطمہ  
 زہرا کے فرزند پر سلام خدیجہ بزرگ مرتبہ  
 کے فرزند پر سلام سدرۃ المنسی کے  
 وارث پر سلام جنت جیسی پناہ گاہ کے  
 وارث پر سلام زمزم و صفا کے وارث  
 پر سلام آلودہ خاک و خون پر۔  
 سلام اس پر جس کا خیمہ بھارا ڈالا گیا چادر  
 تطہیر والوں کی پانچویں فرد پر سلام  
 مسافروں میں سب سے زیادہ بیکس مسافر  
 پر سلام شہیدوں میں سب سے زیادہ  
 پروردگار شہید پر سلام، اس پر سلام جس کو  
 مہول النسب لوگوں نے قتل کیا ساکن  
 ارض کر بلا پر سلام جس کو آسمان کے فرشتے  
 رنئے اس پر سلام جس کی نسل سے ائمہ  
 اطہار ہیں۔ سلام دین کے سردار پر  
 سلام ان (ائمہ) پر جو حق کی منتر لیں ہیں  
 سلام ان ائمہ پر جو پیشوائے ملت ہیں  
 ان گریبانوں پر سلام جو خون میں  
 بھرے ہوئے تھے ان ہونٹوں پر  
 سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے  
 سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے سلام

الْمُخْتَلَسَاتِ السَّلَامِ عَلَى الدِّمَاءِ  
 السَّائِلَاتِ السَّلَامِ عَلَى الْأَعْضَاءِ  
 الْمُقَطَّعَاتِ السَّلَامِ عَلَى الرَّؤُوسِ  
 الْمُشَالَاتِ السَّلَامِ عَلَى النِّسْوَةِ  
 الْبَارِزَاتِ السَّلَامِ عَلَى حُجَّتَيْهَا  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ  
 عَلَى آبَائِكَ الطَّاهِرِينَ السَّلَامُ  
 عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنَائِكَ الْمُتَشَهِّدِينَ  
 السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى ذُرِّيَّتِكَ  
 النَّاصِرِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ  
 عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُضَاجِعِينَ  
 السَّلَامُ عَلَى الْقَبِيلِ الْمُظْلُومِ  
 السَّلَامُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْمُومِ  
 السَّلَامُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْكَبِيرِ السَّلَامُ  
 عَلَى الرَّضِيِّعِ الصَّغِيرِ السَّلَامُ  
 عَلَى الْأَبْدَانِ السَّلَيْبَةِ السَّلَامُ  
 عَلَى الْعِثْرَةِ الْقَرِيبَةِ السَّلَامُ عَلَى  
 الْمُجَدَّلِينَ فِي الْفَلَوَاتِ السَّلَامُ  
 عَلَى النَّاسِرِ حِينَ عَنِ الْأَوْطَانِ  
 السَّلَامُ عَلَى الْمَذْفُونِينَ بِلَا  
 أَكْفَانِ السَّلَامُ عَلَى الرَّؤُوسِ  
 الْمُفَرَّقَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ  
 السَّلَامُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ الصَّابِرِ  
 السَّلَامُ عَلَى الْمُظْلُومِ بِلَا نَاصِرٍ  
 السَّلَامُ عَلَى سَاكِنِ التُّرْبَةِ  
 الرَّاحِيَةِ السَّلَامُ عَلَى صَاحِبِ  
 الْقُبَّةِ السَّامِيَةِ السَّلَامُ عَلَى  
 مَنْ ظَهَرَهُ الْجَلِيلُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ  
 افْتَخَرَهُ جَبْرَائِيلُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ  
 نَافَاهُ فِي الْمَهْدِ مَبْنُوكًا السَّلَامُ عَلَى مَنْ  
 نَكَّثَتْ ذِمَّتَهُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ هَيْبَتَكَ  
 حُرِّمَتْهُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ أُرِيقَ  
 بِالظُّلْمِ دَمُهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُغْتَسِلِ  
 بِدَمِ الْجِرَاحِ السَّلَامُ عَلَى الْمُجْبَرِّعِ  
 بِكَاسَاتِ الرِّمَاحِ السَّلَامُ عَلَى  
 الْمُضَامِ الْمُسْتَبَاحِ السَّلَامُ عَلَى الْمُتَعَوِّرِ  
 فِي الْوَرْدِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ دَفَنَهُ  
 أَهْلُ الْقَوَى السَّلَامُ عَلَى الْمُقَطَّرِ

ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا۔  
 ارض کر بلا پر بسنے والے خون پر سلام جموں  
 سے جدا کر دیئے جانے والے اعضاء پر سلام  
 نیزوں پر اٹھائے جانے والے سڑن پر سلام ہے یا  
 ہو جانے والی مستورات پر سلام حجت پر ردگار  
 عالم پر سلام آپ پر سلام اور آپ کے  
 پاکیزہ آباء و اجداد پر سلام آپ پر سلام  
 اور آپ کے شہید ہونے والے فرزندوں  
 پر سلام آپ پر سلام اور حمایت حق  
 کرنے والی لڑکی ذریت پر سلام آپ پر  
 سلام اور آپ کے پہلو میں رہنے والے  
 فرشتوں پر سلام سلام سلام و تم سے قتل کیے  
 جانے والے پراوائے بھائی جن پر جن کو  
 زہر دیا گیا۔ سلام جناب علی اکبر پر سلام  
 کسن شیر خوار پر - سلام نبی کی قریب  
 ترین ذریت پر ان جموں پر جنکو بعد شہادت لوٹا  
 گیا، سلام ان ملا شوق جنکو بیابان میں بڑا  
 چھوڑ دیا گیا۔ سلام ان مسافروں پر جو  
 اپنے وطن سے دور تھے۔ سلام بے کفن  
 دفن کیے جانے والوں پر سلام ان  
 سروں پر جن کو جسموں سے جدا کر دیا گیا  
 راہ خدا میں اذیت اٹھانے والے صابر  
 پر سلام عالم سیکسی میں ظلم کیے جانے والے  
 پر سلام، خاک پاک پر رہنے والے پر  
 سلام قبہ بلند رکھنے والے پر  
 سلام اس پر سلام جس کو خدا سے  
 بزرگ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔  
 اس پر سلام جس پر جسبر نیل  
 نے فخر کیا۔ اس پر سلام  
 جس کو گوارہ میں میکائیل نے لویاں  
 دیں اپر سلام جسکے باہر میں پوچیاں کو توڑ دیا  
 گیا اس پر سلام جسکی حرمت کو ضائع  
 کیا گیا اس پر سلام جس کا خون ظلم سے  
 بہایا گیا۔ اس پر سلام جس کو زخموں  
 سے بسنے والے خون میں نہلا  
 دیا گیا اسپر سلام جسکو پیاس میں نیزوں کے گھونٹ  
 پلائے گئے اسپر سلام جسپر ظلم و تم روار کھا گیا  
 اسپر سلام جسکو ہر طرف سے نیزے لگائے جاتے

أَوْتَيْنِ السَّلَامُ عَلَى الْمُحَارِمِ  
 بِلَا مَعِينِ السَّلَامُ عَلَى الشَّيْبِ  
 الْخَضِيبِ السَّلَامُ عَلَى الْخَدِّ التَّرِيبِ  
 السَّلَامُ عَلَى الْبَدَنِ التَّرِيبِ  
 السَّلَامُ عَلَى التَّغْرِ الْمَقْرُوعِ  
 بِالْقَضِيبِ السَّلَامُ عَلَى الرَّاسِ  
 الْمَرْفُوعِ السَّلَامُ عَلَى الْأَجْسَامِ  
 الْعَارِيَةِ فِي الْفُلُواتِ تَنْهَشُنَا  
 الذِّئَابُ الْعَادِيَاتُ وَ  
 تَخْتَلِفُ إِلَيْهَا السَّبَاعُ  
 الضَّارِيَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ  
 يَا مَوْلَايَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُرْفُوقِينَ  
 حَوْلَ قَبْتِكَ الْحَافِينَ بِتَرْبَتِكَ  
 الطَّائِفِينَ بِعَرَصَتِكَ الْوَارِدِينَ  
 لِزِيَارَتِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ  
 قَصَدْتُ إِلَيْكَ وَرَجَعْتُ الْفُوزُ  
 لَدَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الْعَارِفِ  
 بِحُرْمَتِكَ الْمُخْلِصِ فِي وَلَايَتِكَ  
 الْمُتَقَرِّبِ إِلَى اللَّهِ بِمَحَبَّتِكَ الْبُرِّئِ  
 مِنْ أَعْدَائِكَ سَلَامٌ مَنْ  
 عَلَيْهِ بِصَابِكَ رُوحٌ وَدَمْعُهُ  
 عِنْدَ ذِكْرِكَ مَسْفُوحٌ سَلَامٌ  
 الْمَفْجُوعِ الْحَزِينِ الْوَالِدِ  
 الْمُسْتَكِينِ سَلَامٌ مَنْ  
 تَوَكَّنَ مَعَكَ بِالطُّفُونِ  
 رَمَى بِنَفْسِهِ حَدَّ السُّيُوفِ  
 وَبَدَّلَ حُشَاشَتَهُ دُونَكَ  
 لِلْحُتُوفِ وَجَاهَدَ بَيْنَ  
 يَدَيْكَ وَنَصَرَكَ عَلَى مَنْ  
 بَغَى عَلَيْكَ وَفَدَاكَ بِرُوحِهِ  
 وَجَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ  
 وَرُوحَهُ لِرُوحِكَ فِدَاءً  
 وَأَهْلُهُ لِأَهْلِكَ وَتَسَاءً  
 فَلَمَّا أَخْرَجْتَنِي الدُّهُورَ  
 عَاقَبْتَنِي عَنْ نَصْرِكَ الْمَقْدُورِ  
 وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِبًا  
 لِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ  
 مُنَاصِبًا فَلَا تَدُبُّنَا صَبَاحًا

آپ پر سلام آپکی حرمت کو پہچاننے والے کا  
 سلام آپسے خالص محبت رکھنے والے کا سلام  
 آپکی محبت کے ذریعہ سے قرب خدا حاصل کرنے  
 والے کا سلام جو آپکے دشمنوں سے بیزار ہے اس کا  
 سلام جسکا دل آپکے غم سے زخمی ہے اور  
 آپکے ذکر کے وقت اسکی آنکھوں سے آنسو جاری  
 رہتے ہیں جو آپکے مصائب سے نہایت دُردمند  
 غمگین ملول اوبے حال ہے اسکا سلام جو  
 طہف کر بلا میں اگر آپکے ساتھ ہوتا تو لوازش  
 کی باڑھ پر اپنی جان کو ڈال دیتا اور امانت  
 ہو کر لئے خون کا آخری قطرہ آپ پر نثار کر دیتا  
 اور باغیوں کے مقابلہ میں آپکے سامنے جہاد کر کے  
 آپکی نصرت کرتا اور اپنی روح اپنا جسم اپنا مال  
 اور اپنی اولاد سب کچھ آپ پر فدا کر دیتا اسکی  
 روح آپکی روح پر نثار ہوتی اور اسکے اہل آپکے  
 اہل پر فدا ہوتے اب جبکہ زمانہ نے مجھے  
 موخر کر دیا اور اسوقت موجود نہ ہونگی وجہ سے  
 میرے معذرنے مجھے آپکی نصرت سے روک دیا  
 اور آپسے لڑنے والوں سے میں نہ لڑ سکا

تھے اسلام جسکو رگ و نوح کے گاؤں لوٹنے دفن  
 کیا۔ اسلام جسکی شہ گ کو بے دوی سے کاٹا گیا  
 اس پر سلام جو یکہ و تنہا دشمنوں کی یلغار  
 کو ہٹا رہا تھا۔ اس ریشیں اقدس پر سلام  
 جو خون سے سُرخ تھی اس رخسار پر  
 سلام جو خاک آلود تھا۔ اس بدن پر  
 سلام جو غبار آلود تھا۔ ان دانتوں پر  
 سلام جن پر ظلم کی چھڑی چل رہی تھی  
 اس سر پر سلام جو نیزہ پر اٹھا یا گیا  
 ان جسموں پر سلام جو بیابان میں نہ پڑے تھے  
 جسکو ستمگاران امت بھیڑیوں کی طرح دوڑوڑ  
 کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کھینے دندے بن کر باہاں  
 اور لوٹا کھسوتا کیلئے ہنڈلا رہے تھے میرے  
 مولا آپ پر سلام اور آپکے قبۃ کے گرد جمع رہنے  
 والے فرشتوں پر سلام جو آپکی تربت کو گھیرے  
 رہتے ہیں اور آپکے صحن اقدس کا طواف کرتے  
 ہیں اور آپکی زیارت کیلئے حاضر ہوتے ہیں  
 آپ پر سلام میں نے آپکی جانب رخ کیا ہے اور  
 آپکی بارگاہ سے کامیابی کا امید وار ہوں

وَمَسَاءً وَلَا يَكْبِتُنَّ لَكَ بَدَلُ  
الَّذِي دُعِيَ مَاءً حَسْرَةً عَلَيْكَ  
وَتَأْسَفًا عَلَى مَا دَهَاكَ وَ  
تَلَهْفًا حَتَّى أَمُوتَ بِلَوْ عَدِي  
الْمَصَابِ وَغَضَبِي لِإِكْتِسَابِ  
أَشْهُدَاتِكَ قَدْ أَقَمْتُ الصَّلَاةَ  
وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَالْعُدْوَانَ وَ  
أَطَعْتُ اللَّهَ وَمَا عَصَيْتُهُ  
وَتَسَكَّتُ بِهِ فَأَرْضَيْتُهُ  
وَخَشِيتُهُ وَسَرَّاقِبْتُهُ وَ  
اسْتَجَبْتُهُ وَسَنَنْتُ السَّنَنَ  
وَأَطَفَاتُ الْفِتْنِ وَدَعَوْتُ إِلَى  
الرِّشَادِ وَأَوْضَحْتُ سُبُلَ  
السَّدَادِ وَجَاهَدْتُ فِي  
اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ وَكُنْتُ  
لِلَّهِ طَائِعًا وَرَجِيئًا مَحْتَمِلًا  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَابِعًا وَلِقَوْلِ

أَبِيكَ سَامِعًا وَاللَّهُ وَصِيَّةَ  
أَخِيكَ مُسَائِرًا وَأَوْلِيَّ عِمَادِ  
الدِّينِ رَافِعًا وَالطُّغْيَانَ  
قَامِعًا وَاللُّطْغَاةَ مُقَارِعًا وَاللِّامَةَ  
نَاصِحًا وَفِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ  
سَابِحًا وَفِي لُفْسَاقِ مَكَانِي  
وَبِحُجُجِ اللَّهِ قَائِمًا وَ  
لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ  
رَاحِمًا وَفِي الْحَقِّ نَاصِرًا وَ  
عِنْدَ الْبَلَاءِ صَابِرًا وَاللَّذِينَ  
كَانُوا عَنْ حُوزَاتِهِ  
مُصْرَمِيًا تَحُوطُ الْهُدَى  
وَتَنْصُرُهُ وَتَبْسُطُ الْعُدْلَ  
وَتَنْصُرُ الدِّينَ وَتُظْهِرُهُ  
وَتَكْفُ الْعَابِثَ وَتَرْجُرُهُ  
وَتَأْخُذُ لِلدِّينِ مِنَ الشَّرِيفِ  
وَتَسَاوِي فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْقَوِيِّ  
وَالضَّعِيفِ كُنْتُ رَبِّيعَ  
الْأَيْتَامِ وَعِصْمَةَ الْأَنْفَامِ وَعِزًّا



او اپنے دشمنوں کے مقابلے کیلئے میدان میں آ کر کھڑا  
 نہ ہو سکا تو صبح و شام بقیہ جاری سے آپ کے غم میں  
 رویا کروں گا اور خون کے بدلے آنسو بہاؤں گا کیلئے  
 غم یہ آپ کے مصائب پر سنج و ملال او آہ پر درد  
 کبھی جان بولی نہیں اسی سوش غم اسی سنج و  
 ملال کو ساتھ لیکر دنیا سے اٹھ جاؤ گا مولا میں  
 گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا بڑی  
 زبردست زکوٰۃ دی نیکیوں کا حکم دیا  
 بلائیوں اور سرکشی سے روکا اپنے خدا کی  
 اطاعت کی کبھی انکی نافرمانی نہیں کی اپنے  
 اپنا رابطہ خدا سے قائم رکھا اور اسکو اتنا ہی خوش  
 رکھا آپ ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے آپ کی  
 نظر اسی کی طرف رہی آپ نے ہمیشہ اسکی رضا کو  
 پسند کیا۔ آپ نے سنتِ خدا و رسول کو قائم کیا  
 اور قہنوں کی آگ کو بجھایا دوسروں کو راہ  
 حق کی طرف بلایا اور حق کے راستوں کو اجاگر  
 کر کے دکھایا اور خدا کی راہ میں حج جہاد کا حق  
 تھا سے پورا کر دیا آپ خدا کے مطیع رہے  
 اور اپنے جد محمد مصطفیٰ اصلی ﷺ کے پیرو

رہے اور اپنے باپ کے تابع فرمان رہے اور  
 اپنے بھائی حسن کی وصیت کو جلد پورا کیا  
 آپ ہیں ستونِ دین کو بلند کرنے والے  
 سرکشی کی بنیادوں کو کو دو دینے والے اور  
 سرکشوں کے سر نکو ضرب نیزہ و شمشیر سے کچل دینے  
 والے امتِ پیغمبر کو نصیحت کرنے والے اور موت  
 کے بھنور میں پیرنے والے اور اہل حق و فحور کا مدد  
 دار مقابلہ کرنے والے خدا کی جتوں کیساتھ قائم رہنے  
 والے لسلار اور مسلمین کیلئے دل میں رحم رکھنے والے  
 حق کی نصرت کرنے والے دین کی حفاظت کرنے والے  
 اور سخت آزمائش کی وقت بھر کرنے والے دین کی حفاظت  
 کرنے والے اور دین پر حملہ کرنے والوں کا منہ بھیر دینے  
 والے آپ ہدایت کی حفاظت اور نصرت  
 کرتے رہے اور عدل و انصاف کی نشرو  
 اشاعت کرتے رہے دین کی نصرت  
 و حمایت کرتے رہے اور دین کی حقارت  
 کرنے والوں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے  
 رہے آپ طاقتور سے کمزور کا حق دلاتے  
 تھے اور حکم میں طاقتور اور کمزور کو برابر رکھتے

الْإِسْلَامُ وَمَعْدِنَ الْأَحْكَامِ وَ  
 وَحَلِيفَ الْإِنْعَامِ سَالِكًا  
 طَرَائِقَ جَدِّكَ وَأَبْنِكَ  
 مُشَبَّهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِأَخِيكَ  
 وَفِي الْوَصِيَّةِ لِأَخِيكَ وَفِي اللَّذَمِّ  
 رَضِيَ الشَّيْمَ ظَاهِرًا لِكَرَمِهِ  
 مُتَهَجِّدًا فِي الظُّلْمِ قَوِيمًا  
 الطَّرَائِقِ كَرِيمِ الْخَلَاقِ عَظِيمِ السَّوَابِقِ  
 شَرِيفِ النَّسَبِ مُنِيفِ الْحَسَبِ  
 رَفِيعِ الرَّتَبِ كَثِيرِ الْمَنَاقِبِ  
 مَحْمُودِ الصَّرَائِبِ جَزِيلِ  
 الْمَوَاهِبِ حَلِيمِ رَشِيدِ  
 مُنِيبِ جَوَادِ شَدِيدِ عِلْمِ  
 إِمَامِ شَهِيدِ أَوَاهِ مُنِيبِ  
 حَبِيبِ مَهَيْبِ كُنْتَ لِلرَّسُولِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 وَلِلْأُمَّةِ عَضُدًا وَفِي الطَّاعَةِ مُجْتَهِدًا  
 حَافِظًا لِلْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ نَاكِبًا  
 عَنِ سُبُلِ الْفُسَاقِ  
 بَاذِلًا لِلْجُهُودِ طَوِيلِ  
 الرِّكُوعِ وَالسُّجُودِ زَاهِدًا  
 فِي الدُّنْيَا زُهْدًا الرَّجُلِ عَنْهَا  
 نَاطِرًا إِلَيْهَا بَعِينِ الْمُسْتَوْجِبِينَ  
 عَنْهَا أَمَّا لَكَ عَنْهَا مَكْفُوفَةٌ  
 وَهَيْتُكَ عَنْ زِينَتِهَا مَضْرُوفَةٌ  
 وَالْحَاطِكِ عَنْ بَهْجَتِهَا  
 مَطْرُوفَةٌ وَسَرَّ غَبْتِكَ  
 فِي الْإِخْرَاقِ مَعْرُوفَةٌ حَتَّى  
 إِذَا الْجَوْزُ مَدَّ بَاعَهُ وَ  
 أَسْفَرَ الظُّلْمَ قِنَاعَهُ وَدَعَى  
 الْغَىُّ اتِّبَاعَهُ وَأَنْتَ فِي حَرَمِ  
 جَدِّكَ قَاطِنٌ وَلِلظَّالِمِينَ  
 مَبَايِنٌ جَلِيسُ الْبَيْتِ  
 وَالْمِحْرَابِ مُعْتَزِلٌ  
 عَنِ اللَّذَائِتِ وَالشَّهَوَاتِ  
 تُنَكِّرُ الْمُنْكَرِ  
 بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ  
 عَلَى حَسْبِ طَاقَتِكَ

تھے آپ تمیوں کی بہار تھے مخلوق کے لیے  
 پناہ گاہ تھے اسلام کی عزت تھے آپ کے پاس احکام  
 الہی کا سرمایہ تھا آپ صاحبِ منذر کو گرانقدر  
 عطیہ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے اپنے جدِ امجد  
 اوپر نامدار کے طریقوں چلنے والے اور اپنے بھائی  
 کی طرح آخر خیر کی ہدایت فرمانے والے  
 اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا لے پسندیدہ  
 خوبور کھنے والے آپ کی سخاوت اظہر من الشمس  
 آپ پر وہ شب میں تہجد گزار آپ کا ہر طریقہ  
 مضبوط و درست آپ کی ہر عادت بزرگانہ  
 شان کی حامل آپ کی ہر سبقت عظیم الشان  
 آپ کا نسب انتہائی بلند آپ کے کمالات انتہائی  
 اونچائی پر آپ کا ہر مرتبہ بلند تر آپ کے فضائل بہت  
 ہی زیادہ آپ کے فضائل سب پسندیدہ آپ کی  
 بخششیں نہایت قیمتی آپ صاحبِ علمِ راجح  
 پر گامزن خدا کی طرف مائل سخی عزم کے  
 طاقتور صاحبِ علم امام امت گواہ حقانیت  
 ملت کیلئے درد مند خدا سے لو لگائے ہوئے  
 ہر صاحبِ لکے محبوب خدا کے غضب سے ڈرانے

والے آپ سول کے فرزند ہیں قرآن کیلئے سند  
 ہیں امت کیلئے دستِ مبارک ہیں طاعتِ خدا  
 میں تعب اٹھانے والے عمدہ پیمان کی حفاظت  
 کرنا والے بدکاروں کے راستوں سے الگ تھلگ  
 مصیبت زدہ کو عطا کرنے والے طولانی  
 رکوع و سجود کرنا والے دنیا کو اس طرح چھوڑ دینے  
 والے جیسے دنیا سے خصمت ہونے والا دنیا  
 سے سیر ہوتا ہے دنیا کو اپنے ہمیشہ نفرت کی نظر  
 سے دیکھا آپ کی آرزو میں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں  
 دنیا کی آرائش سے آپ کو سوں دو تھے رفیق  
 دنیا سے آپ کی نگاہیں پھری ہوئی تھیں اور  
 او دنیا جانتی ہے کہ آپ کا میلان خاطر بس آخرت کی  
 طرف تھا ہاں تک کہ ظلم و جور جب اپنے ہاتھ  
 بہت بڑھانے لگا تو ظلم کے چہرے پر چہلکسا پردہ  
 تھا وہ بھی نہ رہا اگر ہی نے اپنے چیلوں کو ہر طرف سے  
 بلالیا اس وقت آپ اپنے جد کے حرم میں مقیم تھے ظالموں  
 سے ڈرتے گوشہ نشین تھے اور عبادت میں مجتہد  
 عبادت تھے دنیا کی لذتوں و خواہشوں سے کنارہ کش  
 تھے اور اپنی طاقت کے مطابق اہل مکان کی حد

وَأَمَّا كَانِكَ ثُمَّ اقْتَضَاكَ  
الْعِلْمُ لِلْإِنكَارِ وَ  
لَزِمَكَ أَنْ تُجَاهِدَ الْفُجَّارَ  
فَسِرْتَ فِي أَوْلَادِكَ وَ  
أَهَالِيكَ وَشِيْعَتِكَ وَ  
وَمَوَالِيكَ وَصَدَعْتَ  
بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَةِ وَدَعَوْتَ  
إِلَى اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُرْغِظَةِ  
الْحَسَنَةِ وَأَمَرْتَ بِإِقَامَةِ  
الْحُدُودِ وَالطَّاعَةِ بِالْمَعْبُودِ  
وَنَهَيْتَ الْخَبَائِثَ وَالطُّغْيَانَ  
وَوَاجَهُوكَ بِالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ  
فَجَاهَدْتَهُمْ بَعْدَ الْإِعَادِ  
إِلَيْهِمْ وَتَاكَيْدِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ  
فَنَكَثُوا إِذِ مَامَكَ وَبَيْعَتَكَ  
وَأَسْخَطُوا رَبَّكَ وَجَدَّكَ وَ  
بَدُّوكَ بِالْحَرْبِ فَثَبَّتَ  
لِلطُّغْيَانِ وَالضَّرْبِ وَطَحْنَتِ  
جُنُودِ الْفُجَّارِ وَأَقْتَحَمْتَ

قَسَطَ الْغُبَارَ مُجَادِلًا بِذِي  
الْفِقَائِرِ كَأَنَّكَ عَلَىٰ  
الْمُخْتَارِ فَلَمَّا رَأَوْكَ ثَابَتَ  
الْجَاسِ غَيْرَ خَائِفٍ وَلَا  
خَاشٍ نَصَبُوا لَكَ غَوَائِلَ  
مَكْرِهِمْ وَقَاتَلُوكَ  
بِكَيْدِهِمْ وَشَرِّهِمْ  
وَأَهْرَ اللَّعِينُ جُنُودَهُ  
فَمَنَعُوكَ الْمَاءَ وَوَسَّرُودَهُ  
نَاجِرُوكَ الْقِتَالَ وَ  
عَاجِلُوكَ النِّزَالَ وَ  
رَشَقُوكَ بِالسِّهَامِ وَ  
النِّبَالِ وَبَسَطُوا إِلَيْكَ  
أَكْفَ الْإِصْطِلَامِ وَلَمْ  
وَلَمْ يَرْعُوا لَكَ ذِمَامًا وَ  
لَا رَاقِبُوا فِيكَ آثَامَهُمْ  
فِي قَتْلِهِمْ أَوْلِيَاءَكَ وَ  
وَنَهَبِهِمْ رِحَالَكَ وَ  
أَنْتَ مُقَدِّمٌ فِي السَّهَبَاتِ

تک اپنے دل و زبان سے حرام سے  
 بچنے کی ہدایت بھی کرتے رہتے تھے آپؐ  
 بیت یزید کا مطالبہ ہوا اور آپؐ کی حقیقت  
 شناس علم نے طے کر لیا کہ بیعت سے انکار  
 ہوا اور بیت نہ کر سکی وجہ سے جو لوگ قتال  
 کریں ان فاجروں جہاد کریں نوراً آپؐ اپنی اولاد  
 اہل خاندان اپنی فرمانبرداری جماعت کو لیکر چلے  
 اپنے حق اور روشن دلائل کو واضح کر دیا اور  
 خلق خدا کو حکمت اور پسندیدہ مرعظ کے  
 ساتھ خدا کی طرف دعوت دی اور حد و حرمت  
 کے قائم کرنا نیز معبود کی فرمانبرداری کا عزم  
 سے بچنے اور کفر سے باز رہنے کا حکم دیا لیکن  
 ستم گاروں نے ظلم و عدالت سے آپؐ کا مقابلہ  
 کیا آپؐ نے پہلے تو ان کو غضب  
 خدا سے ڈرایا اور حجت ہدایت کی  
 مضبوطی کی آخر کار جب انھوں نے آپؐ کے  
 بارہ میں ہر عہد کو توڑ دیا ہر حکم خدا کو پس پشت  
 ڈال دیا اور آپؐ کی بیعت سے بھی پھر گئے اور اپنی  
 شقاوت سے انھوں نے آپؐ کے خدا اور آپؐ کے جد امجد  
 کو غضبناک کیا اور آپؐ لڑنے کی پہل اپنی  
 طرف کی تو پھر آپؐ بھی ضرب نیزہ و شمشیر کے  
 لیے میدان میں گئے اور بدکاروں کے لشکروں  
 کو پیس ڈالا آپؐ جنگ کے گمراہ غبار میں  
 دھنسنے ہوئے ذوالفقار سے حیدر گرا کر کی طرح  
 قتال کر رہے تھے اعدا نے جب آپؐ کو دل کا  
 مضبوطی اور بالکل بخیر ہلسن دیکھا تو آپؐ کے  
 لیے اپنے مکہ کے جاں بچھانے لگے اور اپنی  
 مخصوص سفیانی چالاکوں اور شرارتی  
 ساتھ آپؐ قتال کرنے لگے ملعون عمر بن سعد  
 نے اپنے لشکروں کو حکم دیدیا کہ حسینؑ پانی  
 تک نہ پہنچ سکیں سب لوگ تیزی کیسے  
 آپؐ قتال کرنے لگے آپؐ نے دپے ملے جلے  
 حملے ہونے لگے آپؐ کو تیروں سے چھلنی کر دیا  
 سب نے ظلم و ستم کے اٹھ آپؐ کی طرف بڑھائیں نہ  
 انھوں نے آپؐ کے بارے میں اپنی کسی ذمہ داری کو  
 دیکھا نہ یہ کہ آپؐ اور آپؐ کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں  
 اور آپؐ کے سامان لٹنے میں وہ کتنے زبردست  
 گناہ کے مرتکب ہوئے آپؐ غبار جنگ

وَمُحْتَمِلٌ لِلْإِذْيَاتِ قَدْ  
 عَجِبْتُ مِنْ صَبْرِكَ مَلِكَةً  
 السَّمُوتِ فَأَحَدُ قَوَائِكَ  
 مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ وَانْحُوكَ  
 بِالْجُرَاحِ وَحَالُوا بَيْنَكَ وَ  
 بَيْنَ الرَّوَّاحِ وَلَمْ يَبْقَ لَكَ  
 نَاصِرٌ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُنْجِبٌ  
 تَذُبُّ عَنْ نِسْوَتِكَ وَأَوْلَادِكَ  
 حَتَّى تَكْسُوكَ عَنْ جَوَادِكَ  
 فَهَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ جَرِيحًا  
 تَطَأُكَ الْخَيُْولُ بِحَوَافِرِهَا وَ  
 تَعْلُوكَ الطَّغَاةُ بِبَوَائِرِهَا  
 قَدْ رَسَخَ لِلْمَوْتِ جَبِينُكَ  
 وَاخْتَلَفَتْ بِالْإِنْقِبَاضِ وَ  
 انْبَسَاطِ شِمَالِكَ وَيَمِينِكَ  
 تَدِيرُ طَرْفًا خَفِيًّا إِلَى رَحْلِكَ  
 وَنَبِيكَ وَقَدْ شَغَلَتْ بِنَفْسِكَ  
 عَنْ وُلْدِكَ وَأَهْلِيكَ وَ  
 أَسْرَعَ فَرَسُكَ شَارِدًا إِلَى  
 خِيَامِكَ مُحْمَجًا بِأَكْيَا  
 فَلَمَّا رَأَى مِنَ النِّسَاءِ جَوَادِكَ  
 مَخْزِيًا وَسَرَجَكَ عَلَيْهِ مَلُوبِيًا  
 بَرَزْنَ مِنَ الْخُدُورِ نَاشِرَاتِ  
 الشُّعُورِ عَلَى الْخُدُورِ لِاطِّهَاتِ  
 الْوُجُوهِ سَافِرَاتِ وَبِالْعَوِيلِ  
 دَاعِيَاتِ وَبَعْدَ الْعِزِّ  
 مَذَلَّاتِ وَإِلَى مِصْرَعِكَ  
 مَبَادِرَاتِ وَالشُّمُورِ جَالِسِ  
 عَلَى صَدْرِكَ وَمَوْلِعِ سَيْفِهِ  
 عَلَى نَحْرِكَ قَابِضٌ عَلَى شِبْبَتِكَ  
 يَبِيدُهَا ذَابِحٌ لَكَ بِمُهْتَدِهِ  
 قَدْ سَكَنْتَ حَوَاسِكَ وَخَفَيْتَ  
 أَنْفَاسَكَ وَرَفَعَ عَلَى الْقَنَاقَةِ  
 رَأْسُكَ وَسَبَى أَهْلَكَ  
 كَالْعَبِيدِ وَصَفِيدُ  
 فِي الْحَدِيدِ قَوَاتِ أَقْتَابِ  
 الْمَطِيَّاتِ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ  
 حُرَّ الْأَهْجَاتِ يُسَاقُونَ فِي

میں دھنسے ہوئے تھے اوہر ایک اذیت  
 اٹھا ہے تھے آپکا صبر دیکھ کر تو لانا کھ افلاک  
 بھی تعجب کر رہے تھے ظالموں نے ہر طرف سے  
 آپکو گھیر لیا اور خیم پر خیم پہنچا کر آپکو مضمحل  
 کر دیا دم لینے کی ہمت نہ دی مددگار کوئی  
 آپکار ہا نہ تھا بیکسی کے عالم میں انتہائی  
 صبر و ضبط کیساتھ آپ اپنی مستورات اور  
 بچوں کی طرف سے ہجوم اشقیاء کو ہٹا ہے تھے  
 یہاں تک کہ انھوں نے آپکو گھوڑے سے گرا دیا  
 آپ نے غول سے چوڑھوڑ کر زمین پر گئے لشکر کے گھوڑے  
 اپنے نموں آپکو کچل رہے تھے اور کسر متلا اپنی  
 تلواریں لیے آپ پر چڑھے چلے آئے تھے موت  
 کا پسینہ آپکی پیشانی پر آیا ہوا تھا اور آپ کے  
 دست پاب سے ادھر ادھر مٹتے اور پھیلنے تھے  
 آپ چشم نم وا سے اپنے کنبہ اور اپنے بچوں کو  
 دیکھ رہے تھے حالانکہ اس وقت آپکی خود کی  
 حالت تو ایسی تھی کہ آپکو اپنے کنبہ کا اور بچوں کا  
 دھیان نہ آسکتا تھا اس وقت آپ کا گھوڑا  
 تیزی سے ہنستا اور روتا ہوا آپ کے خیام  
 کی طرف چلا جب اہل حرم نے آپ کے  
 رہوار کو بے سوار دیکھا اور زمین اس پ  
 کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بیقرار ہو کر خیموں  
 سے نکل پڑیں اور بال بکھراے ہوئے  
 منہ پر طمانچے مارتے ہوئے جبکہ پردہ کا  
 دھیان نہ تھا نوحہ و بکا کرتے ہوئے اپنے  
 بزرگوں کو وارثوں کو پچارتے ہوئے جبکہ  
 اپنی اس مخصوص عزت شوکت کے بعد حقارت  
 کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے سب کے سب  
 آپ کی قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے  
 تھے آہ شمر اس وقت آپ کے سینہ پر بیٹھا ہوا تھا اور  
 اپنا خنجر آپکی گردن پر پھیر رہا تھا ریش مبارک  
 ظالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی ہندی تلوار  
 سے آپکو ذبح کر رہا تھا آپ کے دست و پار بے  
 حرکت ہو گئے اور سانس تک گئی نیزہ پر لڑتوں  
 کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید  
 کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں  
 پر بیٹھا دیا گیا دن کے دوپہر کی گرمی انکے چہرے  
 کو جھلس رہی تھی اور وہ غریب یا بانوں اور

الْبَرَارِي وَالْفَلَوَاتِ أَيْدِيهِمْ  
مَغْلُوبَةٌ إِلَى الْأَعْنَاقِ يُطَافُ  
بِهِمْ فِي الْأَسْوَاقِ فَأَلْوِيلُ  
لِلْعَصَاةِ الْفُسَاقِ لَقَدْ قَتَلُوا  
بِقَتْلِكَ الْإِسْلَامَ وَعَطَلُوا الصَّلَاةَ  
وَالصِّيَامَ وَنَفَضُوا السَّنَنَ وَ  
الْأَحْكَامَ وَهَدَمُوا عِدَّةَ  
الْإِيمَانِ وَحَرَقُوا آيَاتِ  
الْقُرْآنِ وَهَمَجُوا فِي الْبَغْيِ وَ  
الْعُدْوَانِ لَقَدْ أَصْبَحَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ  
أَجْلِكَ مَوْتُورًا وَعَادَ كِتَابُ اللَّهِ  
مَهْجُورًا وَعُودِ الرَّحْمَنِ إِذْ قُتِرَتْ  
مَقَهُورًا وَفُقِدَ لِفَقْدِكَ التَّكْبِيرُ  
وَالْتَهْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّحْلِيلُ  
وَالتَّنْزِيلُ وَالتَّوِيلُ وَظَهَرَ بَعْدَكَ  
التَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ وَالإِلْحَادُ  
وَالتَّعْطِيلُ وَالأَهْوَاءُ وَالأَهْوَائِلُ  
وَالأَبْطِيلُ فَقَامَ نَاعِيكَ

عِنْدَ قَبْرِ جَدِّكَ الرَّسُولِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَتَنَعَاكَ إِلَيْهِ  
بِالدَّمْعِ الْهَطُولِ قَائِلًا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ سِبْطُكَ  
وَقَتَاكَ وَاسْتَبِيحَ أَهْلَكَ  
وَحِمَاكَ وَسَبِيَّتَ بَعْدَكَ  
ذَرَارِيكَ وَوَقَعَ المَحْدُورُ  
بِعَتْرِيكَ وَذَوِيكَ فَأَنْزَعَجَ  
الرَّسُولُ وَبَكَى قَلْبُهُ المَهُولُ  
وَعَزَّاهُ بِكَ المَلَأِكَةُ  
وَالْأَنْبِيَاءُ وَفُجِعَتْ بِكَ  
أُمَمُ الزَّهْرَاءِ وَاخْتَلَفَتْ  
جُنُودُ المَلَأِكَةِ المَقْرَبِينَ تُعَزِّي  
أَبَاكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاقِيَمَتْ  
لَكَ المَاتِمَةَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ  
وَلَطَمَتْ الجُورَ العَيْنُ وَ  
بَكَتِ السَّمَاءُ وَسَكَّتْ نُهَاهَا  
وَالجَنَانُ وَخَرَّتْ نُهَاهَا وَالأَضْفَاءُ  
وَاقْطَارُهَا وَالبَحَارُ وَحَيْثَانَهَا



او جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے ہاتھ نکلے  
 گردنوں سے بندھے ہوئے تھے او بازاؤں میں  
 انکو پھرایا جا رہا تھا۔ واسے ہو ان نافرمانوں  
 فاسقوں پر جنہوں نے آپکو قتل کر کے اسلام کو تباہ  
 کر دیا نمازوں کو روزوں کو معطل کر دیا  
 شریعت کے چین کو اور احکام کو توڑ دیا  
 ایمان کی عمارت کو ڈھا ڈیا اور  
 قرآن کی آیتوں کو جلا دیا اور بغاوت  
 و سرکشی میں دھنسنے چلے گئے آپ کے  
 قتل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 قرار پائے مظلوم بھی ایسے کہ اپنے بچے کے خون  
 کا بدلہ نہ لے سکے آپکے قتل سے کتاب خدا پر  
 لا وارثی چھا گئی آپکے ستارے جانے سے اصل  
 میں حق ستایا گیا۔ آپ کے نہ ہونے سے اللہ اکبر  
 اور لا الہ الا اللہ ان آوازوں میں کوئی روح نہ رہی  
 حرام و حلال کا امتیاز قرآن اور قرآن کے  
 معانی کا تعین سب ضائع ہو گیا آپکے بعد شریعت  
 میں کھلی ہوئی تبدیلیاں فاسد عقیدے حدو  
 شریعت کا تعطل نفسانی خواہشوں کا زور  
 گمراہیاں فتنے اور غلط چیزوں کا ظہور ہوا  
 غرض کہ آپکی سنانی سنانے والا آپکے جدا ہجرت کی  
 قبر کے پاس کھڑا ہوا اور آپکی سنانی برستے ہوئے  
 آنسوؤں کے ساتھ رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے  
 سنانی کہ یا رسول اللہ آپ کا فرزند آپ کا  
 بچہ قتل کر دیتا گیا اور آپکے گمراہوں بھانٹاروں کو  
 مار لیا گیا اور آپکی ذریت کو قید کیا گیا اور آپکی ذریت  
 و اہل بیت کو وہ دکھ دیئے گئے  
 جن دکھوں سے انکو بچانا امت پر فرض تھا  
 روح رسول کو انسانی قلق ہوا اور آنحضرت کا  
 قلب نازک گریاں ہوا ملائکہ اور انبیاء نے انکو  
 آپکا پرسہ دیا۔ آپکے قتل ہونے سے آپکی ماں  
 فاطمہ زہرا بیتاب ہو گئیں ملائکہ مقررین  
 کے لشکر ایک کے بعد ایک اترنے لگے جو  
 آپکے باپ امیر المؤمنین کو پرسہ دے رہے  
 تھے اور اعلیٰ علیین میں آپ پر نوحہ و تلام  
 کیا جا رہا تھا کہ آپکے غم میں حوران جنت اپنا  
 منہ پیٹ رہی تھیں آسمان اور آسمان کے  
 باشندے آپ پر روئے جنت اور جنت کے

وَمَكَّةَ وَبُنْيَانَهَا وَالْمِنَانَ  
وَوَلَدَانَهَا وَالْبَيْتَ وَالْمَقَامَ وَ  
الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَالْحِلَّ وَ  
اللَّهُمَّ فَجَحْرَمَةَ هَذَا الْمَكَانِ  
الْمُنِيفِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ  
وَالِ مُحَمَّدٍ وَأَحْشُرْنِي  
فِي رُفَا تِهِمْ وَأَدْخِلْنِي  
الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِمْ اللَّهُمَّ  
إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ يَا أَسْرَعَ  
الْحَاسِبِينَ وَيَا أَكْرَمَ  
الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَحْكَمَ  
الْحَاكِمِينَ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ  
النَّبِيِّينَ رَسُولِكَ إِلَى الْعَالَمِينَ  
أَجْمَعِينَ وَبِأَخِيهِ الْأَنْدَرَجِ  
الْبَطِينِ الْعَالِمِ الْمَكِينِ عَلِيِّ  
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِفَاطِمَةَ  
سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ  
بِالْحَسَنِ الزَّكِيِّ عِصْمَةَ الْمُتَّقِينَ  
وَبِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَكْرَمِ الْمُشْهَدِينَ  
وَبِأَوْلَادِهِ الْمُقْتُولِينَ وَبِعَبْرَتِهِ  
الْمُظْلُومِينَ وَبِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ  
زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَبِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ  
قَبْلَكَ الْأَوَّابِينَ وَجَعْفَرِ  
بْنِ مُحَمَّدٍ أَصْدَقِ الصَّادِقِينَ  
وَبِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ مُظْهِرِ  
الْبُرَاهِينَ وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى  
نَاصِرِ الدِّينِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ  
قُدْوَةِ الْمُهْتَدِينَ وَبِعَلِيِّ بْنِ  
مُحَمَّدٍ أَزْهَدِ الزَّاهِدِينَ وَالْحَسَنِ  
بْنِ عَلِيٍّ وَآرِثِ الْمُسْتَخْلَفِينَ  
وَبِالْحُجَّةِ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ  
أَنْ نَصَلِّيَ عَلَيْكَ مُحَمَّدٍ وَآلِ  
مُحَمَّدٍ الصَّادِقِينَ  
الْأَبْرَرِينَ آلِ طَهٍ وَيَسِّرْ  
أَنْ تَجْعَلَنِي فِي الْقِيَمَةِ مِنْ  
الْأَمِينِينَ الْمُطْمَئِنِّينَ الْفَائِزِينَ  
الْفَرِحِينَ الْمُسْتَبْشِرِينَ  
اللَّهُمَّ الْكُتُبِي فِي السُّلَيْمِينَ

خزینہ دار رئے پہاڑ قطار در قطار رئے دیا  
 اور دریا کی مچھلیاں مکہ اور مکہ کی عمارتیں  
 جنت اور فلکان کعبہ اور مقام ابراہیم شعر  
 حرام اور صل و حرم سب ہی آپ کے غم  
 میں گریاں بنے۔ خداوند اس بلند مرتبہ مقام  
 کی حرمت کا واسطہ محمد آل محمد پر درود و سلام  
 بھیج اور ٹھکان کے گروہ میں مشور فرما اور  
 ان کی سفارش سے مجھے داخل جنت فرما  
 اسے کم سے کم وقت میں ہر ایک کا حساب  
 کرنے والے اسے ہر بزرگ سے کہیں  
 زیادہ بزرگ تر اسے تمام حاکموں سے  
 زیادہ زور حکومت رکھنے والے واسطہ  
 حضرت محمد مصطفیٰ کا جو تیرے آخری پیغمبر اور  
 تمام عالم کی طرف تیرے رسول ہیں اور انکے  
 بھائی کا واسطہ جو کشادہ پیشانی اور معدن  
 علم و حکمت اور ہر علم میں راسخ ہیں یعنی  
 امیر المؤمنین علی رضی اور فاطمہ زہرا کا واسطہ  
 جو زمان عالم کی سزا رہیں حسن مجتبیٰ کا واسطہ جو  
 پاک و پاکیزہ اور پرہیزگاروں کی پناہ گاہ ہیں

اور حضرت ابو عبد اللہ حسین کا واسطہ جو تمام  
 شہداء میں زیادہ بزرگ مرتبہ ہیں اور انکی قتل  
 ہونے والی اولاد کا واسطہ اور انکی مظلوم ذریت کا واسطہ  
 اور علی بن حسین بنین العابدین کا واسطہ جو محمد بن  
 علی کا واسطہ جو عبادت گزاروں کے قلب میں اور  
 جعفر بن محمد کا واسطہ جو مجسم صدفت ہیں اور موسیٰ بن  
 جعفر کا واسطہ جو دلائل حق کو ظاہر کرنے والے ہیں  
 اور علی بن موسیٰ کا واسطہ جو دین کے مدگار  
 ہیں اور محمد بن علی کا واسطہ جو اہل حق کے  
 پیشوا ہیں اور علی بن محمد کا واسطہ جو زاہدوں  
 سے کہیں زیادہ زاہد ہیں اور حسن بن علی کا  
 واسطہ جو ائمہ اطہار کے وارث ہیں اور  
 اس فرد کا واسطہ جو تمام خلق پر رحمت ہیں  
 محمد و آل محمد پر درود بھیج جو صادقین ہیں  
 بہترین نیکیوں کے حامل جن کا لقب  
 آل طہ و آل یسین ہے اور مجھے قیامت  
 میں امن پانے والوں میں سے،  
 صاحبان اطمینان میں سے کامیاب  
 ہونے والوں میں سے خوش و خرم اور

وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ وَ  
 اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي  
 الْآخِرِينَ وَأَنْصُرْنِي عَلَى الْبَاغِينَ  
 وَكَفِّعْنِي كَيْدَ الْحَاسِدِينَ وَ  
 وَأَصْرِتَ عَنِّي مَكْرًا  
 الْمَاكِرِينَ وَأَقْبَضْ  
 عَنِّي أَيْدِيَ الظَّالِمِينَ  
 وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ  
 السَّادَةِ الْمِيَامِينَ  
 فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ مَعَ الَّذِينَ  
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ  
 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  
 وَالصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا  
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ  
 إِنِّي أَقْسِمُ عَلَيْكَ بِنَبِيِّكَ  
 الْمُعْصُومِ وَبِحُكْمِكَ الْمُحْتَمَمِ  
 وَنَهْيِكَ الْمَكْتُومِ وَبِهَذَا  
 الْقَبْرِ الْمَلْمُومِ الْمَوْسَدِ فِي  
 كَفِّهِ الْإِمَامُ الْمُعْصُومُ  
 الْمَقْتُولُ الْمَظْلُومُ أَنْ تَكْشِفَ  
 مَا بِي مِنَ الْغُومِ وَتَصْرِفَ عَنِّي  
 شَرَّ الْقَدَرِ الْمُحْتَمَمِ وَتُجِيرَنِي  
 مِنَ النَّارِ ذَاتِ السَّمُومِ اللَّهُمَّ  
 جَلِّدْنِي بِنِعْمَتِكَ وَسَاخِصْنِي  
 بِقِسْمِكَ وَتَغْتَدِّدْنِي بِجُودِكَ وَ  
 كَرَمِكَ وَبَاعِدْنِي مِنْ مَكْرِكَ وَ  
 نِقْمِكَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ  
 الزَّلَلِ وَسَدِّدْنِي فِي الْقَوْلِ وَ  
 الْعَمَلِ وَأَنْسِجْ لِي فِي مُدَّةِ  
 الْأَجَلِ وَأَعْقِنِي مِنَ الْأَوْجَاعِ  
 وَالْعَلَلِ وَبَلِّغْنِي بِمَوْلَى وَبِفَضْلِكَ  
 أَفْضَلَ الْأَمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ  
 وَأَقْبَلْ تَوْبَتِي وَارْحَمْ  
 عَبْرَتِي وَأَقِلْ عَثْرَتِي وَنَفْسِ  
 كُرْبَتِي وَأَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي  
 وَأَضِلِّ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللَّهُمَّ  
 لَا تَدْعُ لِي فِي هَذَا الشُّهَدِ

بشارت جنت پانیوالوں میں سے قرار دے  
خداوند! مجھے اپنے فرمانبرداروں میں قرار دے  
اوصالحین سے وابستہ رکھ میرے بعد نیکی اور بھلائی  
سے میرا ذکر ہو جو بغاوت کفر شکی کو نبولے ہیں ان سے  
مقابلہ میں مجھے فتح دے مجھے حاسدوں کے شر سے  
بچا اور بڑی تدبیر کرنے والوں کی تدبیر کا رخ  
میری طرف پھیرے ظالموں کے ہاتھ کو  
مجھ پر ظلم کرنے سے ڈکھے اور مجھے اور میرے  
بارکت پیشواؤں کو محمد و آل محمد علی علیہ السلام  
میں ایک جگہ مجتمع کر دے سب زیادہ رحم  
کرنوالے مجھے تیری رحمت آخرت میں بنیاد  
صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت  
نصیب ہو کیونکہ ان حضرات کو تو نے اپنی  
نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ قسم  
دیتا ہوں خداوند میں تجھ کو تیرے نبی معصوم  
کی اوتیرے حتی احکام کی اور گناہوں سے بچنے کے  
لیے تیرے مقررہ ارشادات کی اور س قبر مطہر کی  
جس کی زیارت کیلئے ہر طرف سے جن جنس ملک  
پہنچتے ہیں جس کے پہلو میں امام معصوم


شہید ظلم و ستم آرام فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو دو  
کردے اور میرے مقدر کی برائی کو ہٹائے  
اور مجھے جہنم کی آتش سوزاں سے پناہ دیدے  
میرے چاروں طرف اپنی نعمتوں کا انبار لگائے  
اور مجھے اتنا دے کہ میں خوش و خرم رہوں  
مجھے اپنے جود و کرم میں چھپالے اور اپنی سزا  
اور عقاب سے دور رکھ خداوند! مجھے بغزبت  
سے بچا میرے قول و عمل کو درست کر مجھے  
عمر دراز دے اور امراض و اسقام سے  
بچا اور مجھے میرے پیشواؤں کے وسیلہ  
سے اور اپنے فضل سے میری بہترین تمناؤں  
تک پہنچا۔ خداوند! رحمت خاص نازل  
فرما محمد و آل محمد پر اور میری  
توبہ کو قبول فرما اور مجھے رونا دیکھنا  
فرما میرے گناہ بخش دے میرے رنج و ملال  
کو دور کر میری خطا کو بخش دے میری اولاد  
کو نیک اور صالح قرار دے۔ خداوند!  
اس عظیم المرتبہ شہادت گاہ اور  
اس بزرگ مرتبہ مقام پر میری حاضری کا

الْمُعْظَمِ وَالْمَحَلِّ الْمُكْرَمِ  
 ذُنُوبًا لَا غَفْرَتَهُ وَلَا عَيْبًا لَا سِتْرَتَهُ  
 وَلَا غَمًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ وَلَا رِزْقًا إِلَّا  
 بَسَطْتَهُ وَلَا أَهْلًا إِلَّا عَمَّرْتَهُ  
 وَلَا نَسَادًا إِلَّا أَصْلَحْتَهُ وَلَا أَمَلًا  
 إِلَّا بَلَّغْتَهُ وَلَا دَعَاءً إِلَّا اجْبَنْتَهُ  
 وَلَا مُضَيِّقًا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا سَمَلًا  
 إِلَّا جَبَعْتَهُ وَلَا أَمْرًا إِلَّا أَنْجَمْتَهُ  
 وَلَا مَالًا إِلَّا كَثَّرْتَهُ وَلَا خُلُقًا إِلَّا  
 أَحْسَنْتَهُ وَلَا انْفَاقًا إِلَّا أَخْلَفْتَهُ  
 وَلَا حَالًا إِلَّا أَحْرَثْتَهُ سُوءًا إِلَّا صَالَحْتَهُ  
 وَلَا حَسْرَةً إِلَّا قَمَعْتَهُ وَلَا  
 عَدُوًّا إِلَّا أَرْدَيْتَهُ وَلَا شَرًّا إِلَّا  
 أَكْفَيْتَهُ وَلَا مَرَضًا إِلَّا  
 شَفَيْتَهُ وَلَا بَعِيدًا إِلَّا  
 أَدْنَيْتَهُ وَلَا شَعْنًا إِلَّا لَمَمْتَهُ  
 وَلَا سُوءًا إِلَّا أَعْطَيْتَهُ اللَّهُمَّ  
 إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْعَاجِلَةِ  
 وَثَوَابَ الْوَجَلَةِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي

بِحَلَالِكَ عَنِ الْحَرَامِ وَبِفَضْلِكَ  
 عَنِ جَمِيعِ الْأَنَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي  
 أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَاقِعًا وَقَلْبًا حَاشِعًا  
 وَبِقِيْنًا شَافِيًا وَعَمَلًا سَاحِيًّا  
 وَصَبْرًا جَمِيلًا وَآجْرًا  
 جَزِيلًا اللَّهُمَّ اسْرُقْنِي  
 شُكْرَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَزِدْنِي  
 إِحْسَانِكَ وَكَرَمِكَ إِلَيَّ وَاجْعَلْ  
 قَوْلِي فِي النَّاسِ مَسْمُوعًا وَعَمَلِي  
 عِنْدَكَ مَرْفُوعًا وَآثِرِي فِي الْخَيْرَاتِ  
 مَتْبُوعًا وَعَدْوِي مَقْمُوعًا  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ  
 مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَحْيَاءِ فِي آتَاءِ اللَّيْلِ  
 وَأَطْرَابِ النَّهَارِ وَكَفَيْنِي  
 شَرَّ الْأَشْرَارِ وَطَهَّرْنِي مِنَ  
 الذُّنُوبِ وَالْأَوْثَارِ وَاجْرِنِي  
 مِنَ النَّارِ وَاجْعَلْنِي دَارَ الْقَرَارِ وَاعْفِرْ لِي  
 وَجَمِيعِ إِخْوَانِي فِيكَ وَأَخْوَانِي  
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ

نتیجہ ہو، کہ میرے ہر گناہ کو تو بخش چکا  
 ہو میرے ہر عیب کو تو چھپا چکا ہو مجھے ہر غم کو تو  
 دور کر چکا ہو میرے رزق میں تو کشائش کر چکا  
 ہو میرے گھر کے آباد رہنے کا تو حکم نافذ  
 کر چکا ہو میرے کاموں کے ہر ٹکڑے کو تو درست  
 کر چکا ہو میری ہر آرزو کے دل کو تو پورا کر چکا  
 میری ہر دعا کو قبول کر چکا ہو میری ہر تنگی کو تو  
 زائل کر چکا ہو۔ میرے ہر انتشار کو تو اطمینان سے  
 بدل چکا ہو۔ میرے ہر کام کو تو تکمیل تک پہنچا  
 ہو، میرے ہر مال کو تو زیادہ سے زیادہ کر چکا ہو اور  
 مجھے ہر خلق حسن تو عطا کر چکا ہو اور مجھے ہر صدف کے  
 بعد اسکا بدل دیا اس کی کو پورا کر چکا ہو اور مجھے ہر حال  
 کو تو بہتر قرار دے چکا ہو اور میری ہر رازی کو تو دوست کر چکا  
 ہو اور میرے ہر حاسد کو تباہ کر چکا ہو اور میرے  
 ہر دشمن کو تو ہلاک کر چکا ہو اور مجھے ہر شر سے تو بچا  
 چکا ہو اور مجھے ہر بیماری سے تو شفا عطا کر چکا ہو  
 اور میرے ایک اپنے کو جو ڈر ہو تو اسکو تو قریب چکا ہو اور  
 میری ہر پریشانی کو تو اطمینان بدل چکا ہو اور میرے ہر سوال  
 تو مجھکو عطا کر چکا ہو۔ خداوند! میں تجھ سے اس دنیا

کی بہتری اور اس جہان باقی کے نواب کا سوال  
 کرتا ہوں خداوند! مجھے وجہ جلال سے اتنا دے  
 کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں اور اپنا افضل  
 اسد پر میرے شامل حال کھ کر مجھے پھر کسی ضرورت ہی نہ ہو  
 بارالہ! میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش  
 ہو اور اس نال کا جس میں تیرا خوف ہو اور اس یقین  
 کا جو ہر شک کو دور کرے اور اس اجر کا جو فراوان ہو  
 خداوند! مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر لوں  
 اور اپنا احسان و کرم مجھ پر زیادہ سے زیادہ فرماؤں  
 ایسا کہ سب لوگ میری بات کو مانیں اور میرا عمل  
 تیری بارگاہ میں قبولیت کی بلندی حاصل کر لے  
 اور نیکوں میں لوگ میرے نقش قدم پر چلیں یعنی نیکوں  
 کیلئے میں ایک نور بن جاؤں، خداوند! میرے دشمن کو برباد  
 کرنے بارالہ! رحمت خاصہ نازل فرما اور آل محمد پر جو  
 تیری تمام مخلوق میں بہتر ہے بہتر ہیں سلسلہ رحمت  
 تیرا ان حضرات پر شب و روز جاری ہے اور شر کے  
 لوگوں کے شر کے مقابل میں تو میری حمایت کر اور مجھے  
 گناہوں سے اور گناہوں سے پاک کرنے اور مجھکو  
 جہنم سے پناہ دینے اور راحت آرام کے مقام جنت



نهضت ترجمه  
Translation Movement  
.MS